

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْكَفَٰءُ الْمُتَّقُ دَحْرٌ رَّبِّ

رسالہ

اِخْتِلَافُ الْاَمْرَ

مصنفہ

حضرت اقدس قطب الاقطاب شیخ الحدیث
مولانا حمَد زکریٰ صاحب

یہ معرکۃ الادار رسالہ اپنے مونوچ پر ایک اہم رسالہ ہے یہ اگرچہ
پایہ تکمیل کو نہیں پیغام کلاماً ہم جو عین مذاہب اور انکر عقیدین کے
اختلاف کے اسباب کے ذریں میں حضرت اقدس رسالت اللہ علیہ
نے بیان فرمائی ہیں ان کی انفرادیت اور اہمیت کی صفات کے لئے
صفحہ کا نام نامی کافی ہے۔ رسالہ دلچسپ ہونے کے ساتھ
اساتذہ تلامذہ بلکہ عوام سب ہی کے لئے مفید ہے۔

فہرست ہائے مضمونیں اختلاف الامم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹	تہبید	۱۰	وجہ تالیف
۱۱	دور اول میں	۱۲	اختلاف روایات کی پہلی وجہ
۱۳	ممانعت اور بیوڑھے کو اس کی اجازت	۱۴	حضور کے زمانہ میں تحقیق کی صورتیں
۱۵	غزوہ کے دران بعض صحابہ کا روزے سے ہوتا اور دوسرے صحابہ کا اس کے خلاف کرنا۔	۱۵	صحابہ کا ممدوں علل دریافت سکتا
۱۶	اختلاف روایات کی دوسری اور تسلیمی وجہ	۱۷	ابن عمرؓ کا اپنے صاحبزادے سے نہ بولن
۱۷	حکم خاص کو سمجھ لینا یا اسکار بکس کسی کے مرتبے پر رونا اور اس میں حضرت عائشہؓ وابن عمرؓ کا اختلاف خطبہ کے وقت دور کرعت نقل ٹھپنا۔	۱۸	دوسرا جب ہیں یا نہیں ؟ ابن عمرؓ سے ایک سوال
۱۸	تاویل مختلف الحدیث (ابن قتیبهؓ کی ایک عبارت)	۱۹	غائب اشخاص کے لئے مختلف احکامات کی چند مثالیں
۱۹	صحابہؓ کو حضرت پھر کافر تعلیمات سے روکنا۔	۲۰	ایک تابینا کے لئے ترک جماعت کی اجازت اور دوسرے کو ممانعت
۲۱	اختلاف روایات کی وجہ	۲۲	جو اذان کہے وہی بکیر بھی ٹھہرے
۲۲	حضرت ابو بکرؓ کے تمام مال کو قبیل کر لینا	۲۳	اور دوسرے صحابہ سے انکار کر دینا

صفہ	مختصر	صفہ	مختصر
٢٨	<p>نادی کے سامنے سُکھتا گدھے کا گذر جانا</p> <p>اختلاف روایات کی اٹھویں وجہ</p> <p>صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فعل کر سنت یا واجب سمجھنے میں اختلاف کرتا</p> <p>حدیث آئلہ الاسود دین مکہ رات استقالات میں اختلاف کی وجہ محبت کے لئے مکن علوم کا ماہر ہوتا مزدری ہے</p>	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل سے صحابہ کے مختلف استنباط	<p>غیر مقلدین کی بے چارگی</p> <p>اختلاف روایات کی پانچویں وجہ ایز ۶۷ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو عادت یا سنت پر محوال کرتا</p> <p>جمۃ الرداع میں مقام بلح میں</p> <p>قیام کرنا</p> <p>اختلاف روایات کی چھٹی وجہ ایز ۶۸ کسی فعل کی ملت میں اختلاف ہونا زمین کو بٹائی پر دینے میں اختلاف</p>
٢٩	<p>اختلاف روایات کی نویں وجہ ایز دہن کو تیز کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات</p> <p>اختلاف روایات کی درسویں وجہ</p> <p>حنویر کے طبقی اور سلوکی ارشادات متضاد کیلئے فعل کا حکم ترمذی کو ہجڑنے کا حکم جہاد میں مستول کا مال قائل کر دیں۔</p> <p>سب سے بہتر صوم داؤ دی ہے فروعی مسائل میں اختلاف محبت ہے۔ دنیٰ احکام کی درتمیں۔</p>	اختلاف روایات کی ساتویں وجہ ایز ۶۹ حدیث کے لغوی اور اصطلاحی	<p>لطف وضو کے لغوی اور اصطلاحی ایز ۷۵</p> <p>معنی میں اختلاف</p> <p>ستی ذکر اور اس کی وجہ سے وضو کا حکم۔</p>
٣٠			

صفو	مصنون	صفو	مصنون
۳۳	<p>آگ کی پتی سہوئی چجز سے دھنورہ ٹوٹنا اور اس میں حضرت ابو ہریرہ و جابرؓ کا اختلاف۔</p> <p>دور شانی کی تیسری وجہ سہوا ہے۔</p> <p>صحابہ سے سہو ہو جاتا ان کے مذہب کے منافق نہیں۔</p>	۳۴	<p>حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمؑ سے ماز ٹپھنے والے اور پانی کے انتشار میں ماز کو موخر کرنے والے ہر دکی تصویر فرمائی۔</p> <p>ہارون رشیدؑ کی امام مالکؓ سے ایک درخواست۔</p>
۳۵	<p>ماہ ربیع کے عمرہ میں عبید اللہ بن اور حضرت مائتہؓ کا اختلاف۔</p> <p>ہر شخص کو عمل بالحدیث کی اجازت نہیں۔</p> <p>اختلاف روایات کی ایک وجہ تھی۔</p> <p>ضبط بھی ہے اور اس کے نظر۔</p> <p>علام احمد رضاؓ کا حدیث کو حسنور حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرنے کی وجہ</p>	۳۶	<p>روایت بالمعنى۔</p> <p>روایت بالمعنی کی ضرورت امام اعظمؓ کا حدیث کو حسنور حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرنے کے باعث میں صحابہ کے چند واقعات۔</p>
۳۷	<p>دور شانی میں اختلاف روایات کی وجہ تھی۔</p> <p>ظاہری معنی پر محل ایک صحابیؓ کا اپنے کمرہ متینم کر دینا</p> <p>ابن عمرؓ کا باب النساء داخل ہونا۔</p> <p>ابوسعید خدراؓ کا مرتبے وقت جدید بہاس زیب تن کرتا۔</p>	۳۸	<p>روایت بالمعنی کی ضرورت احادیث کا دوسرا دور ہے صحابہ اور تابعین میں اختلاف کی وجہ روایت بالمعنى۔</p>

صفحہ	مصنفوں	صفحہ	مصنفوں
	ایک داعنط کا یعنی بن معین اور امام احمد بن حنبل کے رویہ خود انکی طرف جھوٹی روایات منسوخ کرنا۔		امام سخاری کے نزدیک محدث کے لئے چالیس چیزوں کا حصول ضروری ہے نیم سوریوں کی جماعت سے گلہ دور شانی میں اختلاف روایات
۴۲	دور شانی میں اختلاف روایات از کی آٹھویں وجہ معاذین کے تصرفات حاد بن سلمہ اور معرکی تصانیف میں	۴۳	تارت و سائط اخلاق کے مرجعیں ہے فقہ خلق سب مذاہب بالآخر گروہ ہے؟ کاریخ موالید و فیض امداد راجحة والمرحدیث دور شانی میں اختلاف روایات
۴۴	عوام کے سامنے ایسے امور کا ذکر کرنا جو ان کی عقول سے بالاتر ہوں فساد و تخدیہ کا باعث ہیں معاذین کے تصرفات کی بنا پر احادیث سے بدیعتی ہیں کی جاسکتی۔		کی جھٹپتی وجہ ضعف روات شرح الرعین کی ایک عبارت عمل بالحدیث کے متعلق یہ ہو محمدین کی تصریحات
۴۵	تسلیم اور اختلاف مذاہب سائل کا اثبات مختلف وجوہ سے ہوتا ہے حدیث کی تین قسمیں اور ان کی تعریف خبر واحد اور اس کی قسمیں مختلف احادیث میں اگر صحیح نہ ہو کے تو کی صورت اختیار کرے۔ تعلیم شخصی کیوں ضروری ہے۔		دور شانی میں اختلاف روایات از کی ساقویں وجہ طہور کذب موضوع احادیث کا تو در اور اس کی چند نظریں

صفحہ مضمون	صفحہ مضمون
<p>۷۲ حدیث لا صلوٰۃ الابغا تکہ کتاب آئیۃ قرآنی فاقرڑ دام امیر سر کے عموم کے خلاف ہے۔</p>	<p>۷۲ محدثین کے نزدیک وجہ طعن دس سے زائد ہیں۔ عدالت کے متعلق پانچ جو وجہ حافظہ کے متعلق پانچ جو وجہ وجہ طعن علماء کے درمیان دو وجہ سے مختلف ہیں اور اس کی تفصیل چند اور وجہ طعن</p>
<p>۷۳ حدیث القضاۃ بشام بجهة ہمیں کسی حداثہ مشہورہ میں راوی کا کسی امر کو ذکر کرنا اور بقیہ کو حجھوڑ دینا، صحابہ کا اپنے اجتہاد سے فیصلہ فرمانا اور حدیث سے استدلال نہ کرنا۔ راوی کا اپنی روایات کے خلاف فتویٰ دینا یہ سب روایات کی جو وجہ میں سے ہے۔</p>	<p>۷۳ میری ایک دیر نیہ خواہش امہ مجتہدین نے احادیث کو پر کھنے کے لئے اپنے مستقل معیار قائم کیا ہے احناف کے بعض اصول احناف کے یہاں اتصال کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں۔ متواتر۔ مشہور خبر واحد اور ان کی تعريفات</p>
<p>۷۴ غیر مقلدین کا کمان علم امہ کے درمیان اختلاف کی ایک بڑی وجہ ترجیح میں الروایات ہے بدایۃ المجتہد کی ایک فصل کا تحریر و تخصیص سبیلین کے علاوہ بدن انسانی سے نجاست کا نکلن اور اس میں علماء کے تین منہب</p>	<p>۷۴ ہر راوی کے لئے چار شرطیں ضروری ہیں بیکث ثانی حدیث کے اتصال اور انقطاع کے بارے میں۔ انقطعان کی قسمیں</p>

صفحہ	مضمنوں	صفحہ	مضمنوں
۸۲	امام ابو حنفیہ اور امام اوزاعی کا مقابلہ احناف کے نزدیک رادی کا نقیبیہ	۷۵	نیند کا ناقض و صنو ہوتا ہے ہونا اور اس میں ائمہ کا اختلاف
۸۳	ہوتا یا بعثت ترجیح ہے۔ امام مالک کے یہاں عمل اہل مدینہ یا عثت ترجیح ہے۔	۷۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند کے ناقض و صنو ہونے میں دونوں قسم کی روایات ہیں۔
۸۴	مخالف روایات کے درمیان وجوه ترجیح سو سے زائد ہیں	۷۷	مس مرأۃ اور اس میں ائمہ کی تفصیلات مس کا مشترک للعنی ہونا۔ آیت قرآنی او ٹرستم النصار میں مس سے کیا مراد ہے۔
۸۵	احناف کا عدم رفع کی روایات کو راجح قرار دینے کی وجہ حنفیہ کے یہاں جمیع اور عصر کی	۷۸	اختلاف ائمہ کی مثال اختلاف اطیاب کی کسی ہے۔ تاقدین حدیث بائزرا صرافی کے ہیں تو اس حدیث میں دقیق بحث محل
۸۶	غاز میں تاخیر افضل ہے حنفیہ کا دندر کے قنوت میں	۷۹	کی ہے۔ محل کے بارے میں ائمہ حدیث کے خیالات ائمہ کے اجتہادات کا غالباً حصہ مشکوٰۃ بنوۃ ہی سے مستنبطہ ہے۔
۸۷	اللهم ان استعينك كوراج قرار دینا خاتمة الکتاب	۸۰	ائمہ محمد شین کے لئے باوجود ائمہ ہونے کے فقرہ میں تقید کئے بغیر چارہ نہیں۔

مقدمة

از مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی شیخ الحدیث مدرسہ منظابِ علوم ثم ہباجرد فی قدس مرہ
 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ﷺ دا لہ و اصحابہ و اتباعہ و جملۃ العدین القویم
 اما بعد۔ مدرسہ منظابِ علوم سے رمضان ۱۴۲۳ھ میں ایک ماہوار رسالہ "المنظاب"
 بھی دخلصی مولانا جیل احمد صاحب مدرسہ مدرسہ حال مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور کی زیر ادارت
 تکلفنا شروع ہوا تھا اور مولانا موصوف کے شدید اصرار پر اپنی نا اہلی اور بیتے بیضاحتی کے باوجودو
 اختلاف انہر پر ایک مضمون موصوف کے شدید اصرار اور تفاضلوں پر شروع کیا تھا۔ جب تک
 وہ رسالہ جاری رہا تو باوجود مشاغل کے جو تم کے دوچار صفات ہر ماہ تک حفظ رہا تھا مگر خارج
 اور سوانح کی وجہ سے یہ رسالہ تقریباً تیرہ چودہ ماہ بعد بند ہو گیا تو اس ناکارہ کا مصنفوں بھی بند
 ہو گیا۔ اگرچہ بہت سے احباب اور مختلف رسائل کے ایڈیٹریان نے بہت ہی شدید اصرار اس
 کی تکمیل پر کیا لیکن مولانا جیل احمد صاحب تو چونکہ مدرسہ کے مدرس تھے ہر وقت پاس رہتے
 تھے اس لیے بار بار کے تعااضار کچھ لکھا لیتے تھے لیکن رسالہ کے نہ ہونے کے بعد یہی چوہہش
 اور احباب کے اصرار کے باوجود اسکی تکمیل کی نوبت نہیں آئی ارادہ تو اسیں بہت تفصیل اور بہت مضافات لکھنے
 کا تھا مگر مشاغل علمی اور تالیفی پڑھتے ہی رہے اس لیے اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آئی۔ بعض
 احباب نے اس وقت یہ بھی اصرار کی کہ جتنا ہو گیا ہے اس کو حصہ اول کر کے طبع کرادیا جائے مگر
 چون چونکہ بہت ہی ناقص تھا اس لیے یہ خیال رہا کہ جب کچھ حصہ اور ہو جائے تو طبع کرادیا جائے
 لیکن اب تو اس کی اسیہ بالکل ہی منقطع ہو گئی کامرانی کی کثرت نے بالکل ہی محدود رکودا اور بگور
 بیٹھا ہوں ایسے عزیز مولوی محمد شاہ بدسلہ اور میسرے دوسرے مختلف دوستوں کا اصرار ہوا کہ جتنا لکھا گیا
 ہے وہ بھی نفع سے خالی نہیں۔ ایسے عزیز مولوی شاہ بدسلہ اسکو طبع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اللہ
 تعالیٰ برکت عطا فرمائے لوگوں کو منفع فرمائے۔ اور عزیز موصوف کو ولیوں کی ترقیت سے نوازے۔ آئیں۔
 و مَا تَرْفَعُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدُ دِلْمِيَہِ اَنِیب۔

اختلاف ائمہ رضوان اللہ علیہم السلام

حامد اور مصلیاً۔ عرصہ سے یہ اشکال قلوب سے نکل کر زبانوں تک پر آ رہا ہے کہ ائمہ مجتہدین جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے استدلال فرماتے ہیں تو ان کے مابین اختلاف کیوں ہے بالخصوص مناظر دن کی گرم بازاری اور نفلانی مسائل پر عام و مسائل کے شیوع نے اس اشکال کی اور بھی زیادہ بُری صورت بنادی، جسیکہ اشکال کرنے والے دو فرقی پر منقسم ہو گئے۔ ایک فرقہ ائمہ مجتہدین کے ساتھ بذخنی کے الجھاؤ میں اس تدریجیں گیا ہے کہ وہ اپنی خوش اعتقادی سے اگر اس بھistor سے نکلنا بھی چاہتا ہے تو اس کے سامنے مجتہدین کے اقوال نصی صریح کے خلاف ہونے کا ایسا جال ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے اس سے نکل بھی نہیں سکتا، دوسرا فرقہ اس سے بھی کچھ زیادہ ترقی کر چلا ہے کہ وہ ائمہ مجتہدین سے اگر ٹھہ کر خود بردار و عالم بی اکرم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلیم کی شان میں گستاخانہ خیالات جمانے لگا ہے کہ کہیں کچھ ارشاد فرمادیا ہے اور کہیں کچھ اور فرمادیا، اور حقیقی تصور ان اور دو تراجم کا ہے کہ بات سمجھنے کے لیے اس کی استعداد اور اس کے مقدرات کا معلوم اور مستحضر و ذہن نشین ہوتا ضروری ہے اور یہ مفقود ہو جانے سے صرف الفاظ کا ترجیح سامنے اگر خلجان اور اشکال لا سبب بن جاتا ہے اس اختلاف کے ثرات کی اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ آپس میں فرقہ بندی اور منازعات و مخاصمات کی نوبت آتی رہتی ہے۔ ایک فرقہ دفعو کرتا ہے تو وہ دوسرے کے نزدیک باطل اور دوسرا فرقہ منازعہ ہتھ سے تو وہ اس کے نزدیک فاسد، زکوٰۃ، صوم، نجع، ہر ہر حیز میں اختلافات ٹڑھنے لگے اور مخاصمت کی نوبت پہنچ گئی۔ اس لیے نسبت ضروری ہوا کہ اصل اختلافات کا منہی خلاہ کیا جائے۔ اور ابتدائے زمانہ سے

اختلاف کی وجہ تبلاؤ اس پر تنفس کیا جائے کہ نہ درحقیقت روایات کا اختلاف ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بنی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عالی پارگاہ میں شبیکی گنجائش ہونے اس کے بعد صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کی شان میں گستاخی کی گنجائش ہے۔ بلکہ حقیقتاً جملہ مجتہدین صراط مستقیم ہی کے پیش رو ہیں۔ اور اسی کی طرف داعی دنادی، اور ان کی شان میں گستاخی حرمان کی علامت ہے والیاذ بالش۔

اس میں تک نہیں کہ مضمون نہایت ہی اہم اور ضروری ہے مگر اسے کاش کہ اس کے لیے کسی ایسے شخص کا حکم ہوتا جو اس کا اہل ہو در نہ میری تا قص تحریر اس مضمون کو سمجھاتے کے بجائے خدا نخواستہ کسی اور الجھاؤ میں نہ پھنسا دے، ہر چند میں نے اہل المظاہر سے خدر کے مگر ان کے ازحد رفتہ اصرار نے مجبور کیا۔ کہ اپنی ناہلیت کا اعتراض کرتے ہوئے کچھ عرض کر دوں۔ اسیلے اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریر پیش کرتا ہوں۔

پونکہ اس اختلاف کے حقیقتہ تین دور ہیں۔ ایک اخلاق روایات یعنی بنی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و افعال میں جو بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے، دوسرے اختلاف آثار یعنی صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال میں جو تعارض معلوم ہوتا ہے اور تمیرے اختلاف مذہب جو ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اگر کسی مجتہد کا قول جائز ہونے کی وجہ سے اس کے مقلدین کے لیے ہمیشہ کامیاب ہیں گیا، اس لیے میں بھی ان تینوں پر علیحدہ علیحدہ اجمانی لفظیوں ضروری سمجھتا ہوں اور چوتھے دوسرا تمیر اخلاق حقیقتہ پہلے ہی اختلاف کی فروع ہے اس لیے اسی ترتیب سے اپنی تحریر کو پیش کرتا ہوں۔

و باللہ التوفیق۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسائل کی

صورت اور اختلاف روایات کی ٹبری وجہ

حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تعلیم مسائل کی صورتیں ہیں تھیں جو اسی وجہ پر اسی وجہ کے نام سے مستقل تصنیف، کتب اور رسائل ٹبری اور چھوٹی تالیفات ہر ہر نوع اور ہر ہر مسئلہ پر جدا جدال کی جاتی یا پائی جاتی ہیں، مسائل اور احکام میں ارکان اور شرائع آداب اور منوعات کو جدا جداب تباہی جاتی ہے، اسکی صحدت صرف یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب کوئی حکم نازل ہوا تو اس کو قولًا اور فعلًا خود کے تبلاد دیا، وضو نازل ہوئی تو خود و ضوہ فرم کر تبلادی۔ اور نماز نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر حضور کو تبلادی لعوات کو سکھلا دی، اور اس میں صحدت یہ تدقیقات کہ فلاں جزو فرض ہے فلاں مکن فلاں سنت ہے فلاں واجب ہیں ہر قی تھیں، اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین ممتازات اور عملیات دریافت ہی نہیں فرماتے تھے اگر کوئی جرح بھی کرتا تھا تو وہ خلاف ادب شمار کیا جاتا تھا اور اس کو بنے ادبی پر تسلیہ کی جاتی تھی۔

حضرت ابن عمرؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل کو اگر دہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو نہ روکے۔ ابن عمر کے ایک صاحبزادہ نے زمانہ کو دیکھتے ہوئے عرض کر دیا کہ ہم تو مسجد میں نہ جانے دیں گے، حضرت ابن عمر کو حدیث بنو میث کے مقابلہ میں ہی یہ کا یہ فقرہ سُنَّاً گوارا تو کیا ہوتا ہے حضرت ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں بلکہ مسذاحمد کی روایت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد سے مرنے لگ کے بیٹے سے کلام نہیں کیا۔ اور یہ فرمایا کہ میں حضور کا ایک فرمان نقل کرتا ہوں تو اس کا یہ جواب دے، ایسے ہی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے کسی شخص نے دریافت کیا کہ دتر واجب ہے یا سفت، انہوں نے جواب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ہمیشہ وتر پڑھے اور صحابہ کرام صوان اللہ علیہم السلام نے ہمیشہ وتر پڑھے، اس کے بعد مکر سے کوئی رسائل دریافت کرتا رہا کہ وتر واجب ہے یا نہیں اور حضرت ابن عمرؓ کی جواب مرحت فرماتے ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ عمل کرنے والے کے لیے تدقیقات کی ہزرت نہیں، جب حضور اقدس اور صحابہ کا معمول یہ ہے تو واجب العمل ہونا خود معلوم ہو جاتا ہے، اغرض مسائل کی تعلیم اکثر فعلی حسب ضرورت ہوتی رہتی تھی، وہ لوگ ایسی محدثوں کو کہ اگر کوئی وضو میں ظلان چیز تک کر دے تو کیا حکم ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہو گا؟ اپنے سمجھتے تھے، حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو ایسے سوالات کرتا پھرے جو درپیش نہیں، جو مسئلہ محیثت واقعہ پیش آتا تھا وہ بنی کریم ملی الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کر دیا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مناسب دمواقی سُکْمَ ارشاد فرمادیتے تھے، ایسی صورت میں اختلاف ہونا لازمی اور بدیکی ہے۔

شال کے طور پر چند واقعات لکھے جاتے ہیں جس سے اس کا اندازہ اور بھی واضح ہو جائے گا۔ امام مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے فعل فرمایا ہے کہ ایک نابینا صحابی نے اگر حضور سے یہ عرض کیا کہ۔ مجھے مسجد تک پہنچانے والا کوئی شخص نہیں مجھے اس کی اجازت ہے کہ اپنے گھر تک اپنے ہلیا کر دیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو اگر وہ حضور نے اجازت مرحت فرمادی، اور پھر یہ معلوم فرماسکر کہ ان کا گھر اتنا قریب ہے کہ اذان کی آواز ان کے گھر تک جاتی ہے ان کو اجازت نہیں دی۔ اور مسجد میں اگر شرکت مذاہ کا حکم فرمایا، لیکن عتبان بن مالکؓ کے حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حدم بنی ایک کا عذر قبول فرماسکر ان کو مسجد میں نہ آنے کی اجازت فرمادی، ایسے ہی عبد اللہ بن زیدؓ نے العاظ اذان کو خراب میں دیکھا تھا ان کے لیے حضور اقدس نے اس کی اجازت فرمادی کہ با وجود بلاں کے اذان کہنے کے وہ تکمیر کیں لیکن ایک سفر کے موقعہ میں زیاد بن حارث صدائی نے افان کہی اور

اس کے بعد حضرت بلال نے تکمیر کا ارادہ کیا تو حضور اقدس نے یہ فرمایا کہ جو شخص آذان کہے اسی کا حقیقی اذان کہتے کا ہے حضرت بلال کو روک دیا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے تمام مال کو ایک مرتبہ تصدق فرمادیا اور حضورؐ نے قبول فرمایا لیکن متعدد صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے تمام مال کا صدقہ کیا یا صدقہ کا ارادہ فرمایا اور حضورؐ نے ان کو روک دیا اور رد فرمادیا۔ غرض یہ داتعات دوچار نہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی مقدار میں ایسے ملیں جن سے یہ امر نہایت واضح ہو جاتا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اشخاص کیلئے کوئی حکم فرماتے تھے جبکی دوسرے بعض کو وجہ نہیں ہوتی تھی ایو ہر تریہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ سے ایک شخص نے روزہ کی حالت میں بیوی سے بوس کرنے کو دریافت کیا۔ تو حضورؐ نے اجازت فرمادی، اور ایک دوسرے شخص نے دریافت کیا تو حضورؐ نے منع فرمادیا، نور ایسا بات سمجھیں آئی کہ جبکو اجازت دیدی تھا وہ پورا شخص تھا اور جبکہ منع فرمادیا وہ جو بزرگ تھا۔

اب ان سب قصوں میں ہر شخص قیمتی دی امر نقل کرے گا جو اس پر گزرا اور جسکو وہ خود بلا واسطہ حضورؐ سے معلوم کر چکا ہے، جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں اس کی اجازت فرمادی ہے وہ بلا تکلف ————— شہرخون تک اس امر کو پہنچانے کا سامنی ہو گا کہ روزہ کی حالت میں بوس دکنار جائز ہے اور مفسدہ ہونے نہیں۔ اور دوسرا شخص اسی شدومد سے اس کا خلاف نقل کرے گا۔ اور وہ روزہ کیلئے اس کو ناجائز قرار دے گا، اور یہی نہیں کہ صرف ان دشمنوں کی متعارض روایتیں ہو گیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمیشہ طالبین و شاگقین کا مجمع رہتا تھا، مسائل پوچھنے والے، زیارت کرنے والے، فاصلہ و امیر ہر وقت آتے جلتے رہتے تھے۔

اس بنا پر ان مختلف احکام کے دو دقوں میں سے دالے جیاں جائیں گے دی امر نقل کریں گے جو انہوں نے اپنے کافروں سے بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سن ہے، درحقیقت یہی ایک وجہ الی اہم اور طویل ہے۔ کہ اس کے ذیل میں جس قدر بھی

اختلاف روایات ہو وہ کم ہے اس لیے کہ مجمع میں معدود اور غیر معدود، قوی اضعیف،
ہر نوع کے شخص ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لیے اس کی قوت وضعف کے لحاظ سے حکم
بدل جاتا ہے، ایک شخص اس قدر قوی القلب ہے کہ وہ اگر اپنا تمام مال صدقہ کرنے
تو اس کی زبان پر شکوہ یا سوال تو در کرنا اس کے قلب پر بھی اطمینان ہے کہ اس
کو حقیقی بھی تسلیف ہو گی اس ہی قدر رضام الہی اور توجیہ الہی میں انہماں ہو گا اس
کے لیے نہایت ہی مناسب ہے کہ عام مال تصدق کر دے، دوسرا دو شخص ہے
جس پر اس قسم کا اطمینان نہیں بلکہ اندیشہ شکوہ شکایت سے بھی آگے بڑھ جانے کا
ہے اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ اپنا تمام مال تصدق کر دے۔

ایسے ہی اگر ایک شخص نہایت قوی ہے اس کے لیے ہی السبب ہے کہ وہ
سفرگی حالت میں رمضان المبارک کا روزہ قضانہ کرے کہ رمضان المبارک کی فضیلت
ہاتھ سے نہ جائے، لیکن اگر دوسرا شخص ضعیف ہے اس کے لیے الی حالت میں
کو صفرت کا احتمال غالب ہو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ناجائز ہو گا اس ہی
فرق کی وجہ سے روایات حدیث میں اس جگہ بھی اختلاف ہو گا، ابو سعید خدّری نقل
کرتے ہیں کہ ہم رسول رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرکابی میں
ایک غزوہ کے لیے پھر راستہ میں ہمارے بعض رفقائے روزہ رکھا اور بعض
نے افطار کیا، کوئی ایک فریق دوسرے پر معتبر نہیں تھا نہ روزہ رکھنے والے
افطار کرنے والوں کو مطعون کرتے تھے نہ افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں
کا خلاف کرتے تھے۔

جمزہ بن عمر اسلامیؓ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مریٰ
عادت کثرت سے روزہ رکھنے کی ہے سفرگی حالت میں روزہ رکھ لیا کروں ؟
حضرت نے ارشاد فرمایا اخْيَا سے چاہئے رکھ لو یا نہ رکھو، لیکن حضرت جابرؓ نے
کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سفرگی حالت

میں روزہ رکھتا کچھ بخلافی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ان لوگوں کو گنگا رتبلایا ہے جو حالت سفر میں روزہ رکھتے ہوں۔ اس سے بھی ٹھہر کر کہ عبد الرحمن بن عوف حضور سے نقل حرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ حضرت یعنی غیر سفر کی حالت میں روزہ توڑنے والا۔

غرض اختلاف روایات کی ٹہری وجہ یہ اختلاف احوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احوال و اوقات کے لحاظ سے دو دقوں میں دو شخصوں کو علیحدہ ارشاد افراز کے جس مجمع میں جو حکم ارشاد فرز مایا و سرے حکم کے وقت وہ ہی مجمع نہ ہونا بدیہی ہے، اس لیے دو ٹہری جماعتی دو مختلف حکموں کی ناقل بن گئیں، اگر ایسے بھی بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں گے بلکہ ہستے تھے جنہوں نے دونوں حکم سُنسے ہوں گے اور ان کو ضروری تریتا مل دخور کرنے کی ضرورت پیش کی گئی کہ ان مختلف حکام کی کا وجہ ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے خیال کے موافق دونوں کو مجمع فرمایا جیسا کہ ابھی گذر چکا ہے کہ ابو ہریرہؓ نے روزہ کی حالت میں بوس دکان کے باڑہ میں دو حد شین نقل کیں اور دونوں کے اختلاف کی وجہ بھی تلاویکی، ایسے ہی ابو ہریرا ردوں و اعات نکھلیں گے اس بಗان کا استیحاب نہ ہو سکتا ہے دھھنود، یہ چند و اعات بھی مثال کے طور پر اس لیے ذکر دیئے ہیں کہ یہ بات اگرچہ خود ہی بدیہی ہے لیکن و اعات کی شہادت سے اور زیادہ ذہن نشین ہو سکتی ہے ان مختلف روایات کے بعد صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کا یہ فرض ہے کہ وہ دونوں طریقے کی روایات کا آخذ، موقع، محل تلاش فرمائکر ہر روایت کو اس کے موقع پر محول فرمادیں۔

اختلاف روایات کی دوسری اور تیسرا وجہ

مختصر اور وجہ کثیرہ کے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم کی خاص شیس کے لیے مخصوص فرمایا کسی مخصوصیت کی وجہ سے

کسی شخص کو مخاطب فرمایا کہ کوئی ارشاد فرما کر حضور محبس میں سے بعض حضرات نے
اس کو عام حکم سمجھ کر کلیئے کے طور پر نقل فرمادیا۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت حضرت عائشہؓ کے خیال کے موافق حضرت ابن عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ
حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مریت کو اس کے گھر والوں
کے رہنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہؓ اس کا انکار فرماتی ہیں ان کا
خیال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص عورت کے بازہ میں یہ
قصہ فرمایا تھا کہ وہ یہودی جس پر یہ گھر والے رو رہے ہیں عذاب دی جا رہی ہے ہمیں
اس جگہ نہ اس نوع کی روایات کا احصار مقصود ہے نہ اس پر کلام نہ مقصود یہ ہے
کہ حضرت عائشہؓ کی رائے جمپر محققین کے نزدیک راجح ہے یا ابن عمرؓ ہمارا مقصود
صرف یہ بتلانا ہے کہ اس نوع کا اختلاف بھی روایات حدیث میں بکثرت موجود ہے اسی
قبيل سے حففيٰ کی تحقیق کے موافق خطبہ کے وقت تحریۃ المسجد کی روایات ہیں کہ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیک غطفانی ایک صحابی جو تہابیت ہی صدر تمدن
غیریں الحال تھے ان کو اس لیے تحریۃ المسجد کا اس وقت حکم فرمایا تھا کہ لوگ ان کی
غربت پر بھی نظر کریں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصیت کا
لحاظ کریں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطبہ کے درمیان ہی
میں تو افل کا حکم فرمایا بعض روایات کے موافق خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ
رو کے کھڑے رہے یاکن مجھ میں بہت سے حضرات تھے جنہوں نے اس حکم کو عام
قرار دیا اور کلیئے کے طور پر نقل فرمادیا کہ جو شخص خطبہ کے وقت مسجد میں داخل ہو اس کو
دور کھٹت تحریۃ المسجد پر چھٹی چائیں۔ اسی قبیل سے ہی سالم مولیٰ حذیفہ کے دودھ پلانے
کا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوص ان کے لیے حکم ارشاد فرمایا تھا لیکن
حضرت عائشہؓ اس حکم کو عام سمجھ کر کلی طور پر حکم لگاتی ہیں اور دیگر ازدواج مطہرات
نے کلمتہ اس سے انکار فرمایا ہے۔ اتم سننہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اس حکم کی وجہ معلوم نہیں

لیکن یہ قطعی ہے کہ یہ حکم سالم کے ساتھ مخصوص تھا یہ ہی وجہ ہیں عمران بن حصین کے اس قول کی جس کو ابن قتیبہ نے تاویل مختلف الحدیث میں نقل کیا ہے۔

عمران بن حصین صحابی فرماتے ہیں واللہ مجھے اس قدر حدیثیں یاد ہیں کہ چاہوں تو در در وزٹک برابر روایت کر سکتا ہوں لیکن یہ مانع ہے کہ چند صحابی نے میری طرح سے احادیث کو سننا اور حضرت کی خدمت القدس میں میری طرح حاضر یا شر ہے۔ لیکن بھر بھی روایت میں غلطی کرتے ہیں مجھے روایت کرنے میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ روایات مجھ پر ایسی مشتبہ ہو جائیں جیسا کہ ان پر مشتبہ ہو گئیں۔ میں اس پر تنبیہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے کچھ دہم سو ان کہ وہ دیدہ والوں غلط روایات کرتے ہیں۔	ان عمران بن حصین قال والله ان كنت لاذی اذی لوثت لحدث عن رسول الله صلى الله - عليه وسلم يومین متابعين ولخت بطانی عن ذلك ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا كما سمعت و شهدوا كما شهدت و يحده شفعت احادیث ما هي كما يقولون و اخاف اف يشبه لي كما شيء لهم فاعلمك انهم كانوا يغلطون لا انهم كانوا يتعمدون -
---	--

اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں کثرت روایت کو منع فرمادیا تھا جیکہ اسی کثرت کی وجہ سے بعض اجل صحابی پر پابندی عائد کر دی تھی ابوسلمؓ نے حضرت ابوہریرہؓ سے پوچھا کیا تم عہد فاروقی میں بھی اسی کثرت سے روایت کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر اس وقت اس طرح روایت کرتا تو حضرت عمرؓ کے سے

خبر یقین غرض اختلاف روایات کی دوسری وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو حکم بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص شخص کے لیے مخصوص طور پر فرمایا تھا اس کو کسی نقل کرنے والے نے علی العموم نقل کر دیا جس کے امثلہ ابھی گذر چکی ہیں اور تفسیری وجہ اسکے عکس کی صورتیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم علی العموم اتنا فرمایا تھا اس کو کسی نقل کرنے والے نے کسی شخص کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ مخصوص قرار دے لیا اس کی مثالیں بھی گذشتہ روایات میں ظاہر ہیں مثلاً حضرت ابن عمرؓ کی دو روایت جو میت کے عذاب کے بارہ میں گذری ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ وہ مخصوص یہودیہ کا قصہ ہے انہی مواقع کی تفییج کے لئے ائمہ مجتہدین کی ہمدردت ہے جن کے سامنے ہر نوع کی مختلف روایات موجود ہوں صحابہ کے مختلف احوال مختصر ہوں جن کے مجموعہ سے یہ امر منقطع ہو سکے کہ کون حکم عالم ہے کون خاص اور کیا داعی ہے ایک ہی امر کو ایک شخص کے لیے جائز قرار دینے کا اور اسی کو دوسرے کے لئے ناجائز فرمانے کا۔

اختلاف روایات کی چوٹی وجہ

روایات حدیث کے درمیان میں اس اوقات اختلاف اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد لوگوں نے ایک کام کرتے دیکھا دیکھنے والوں کے فہم کا مختلف وزن ہونا یاد رہی ہے لیعنی لوگ مجتہد تھے فقیہ تھے بات کو اس کے طریقہ کے موافق سمجھنے والے تھے انہوں نے حسب موقع واقعہ کے مطابق خیال اور بعض لوگ حافظہ کے دھنی بات کو یاد رکھنے میں کیا پہلے طبقے سے بھی اس میدان میں چاگز آگے لیکن لفڑی میں اُن سے کم انہوں نے واقعہ اپنی فہم کے مطابق نقل فرمایا اس کی مثالیں کتاب ابجع میں سینکڑوں ملیں گی مثلاً ایک شخص نقل کرتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچ افراد تھا۔ اس لیے کہ اُس نے

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیک بھپڑ کہتے ستا اس میں تردد نہیں کہ روایت صحیح اس میں شک نہیں کہ نقل کرنے والے نے کوئی کوتاہی نہیں کی لیکن دوسرے لوگ نقل کرتے ہیں کہ بنی اکرم علی الصلوٰۃ والسلام کا احرام قرآن تھا یہ روایت ظاہراً پہلی کے مخالف ہے اس لیے قرآن حج کی مستغل دوسری قسم ہے جو افراد کے ملا داد ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ قارن کے لیے بیک بھپڑ کہنا بھی جاؤ ہے اب صرف بھپڑ کا کام رہ گیا ہے کہ دونوں کی طرح، روایات کو سانسہ رکھ کر ان میں جمع کی صورت پیدا کرے دونوں کے محل مستغل قرار دے تاکہ تراجم روایات سے خلجان نہ پیدا ہو۔ اسی قبیل سے بنی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلیم کا ابتداء احرام ہے اس بارہ میں روایات مختلف واقع ہوئی ہیں کہ حضنور نے احرام کی ابتداء کس وقت فرمائی اور اسی اختلاف روایات کی وجہ سے انہر میں بھی اس امر میں اختلاف ہوا ہے کہ احرام کا باندھنا کس وقت افضل ہے۔ چنانچہ ان ہی مختلف روایات کی بنابری سعید بن جبیر جو ایک بڑے تابعی ہیں انہوں نے جبرا امامہ حضرت عبد اللہ بن عباس پر اس اختلاف روایات کا اشکال کر کے اس کا حل پوچھا ہے ابو داؤد میں یہ مفصل روایت موجود ہے جس کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن عباس سے یہ کہا کہ مجھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس اختلاف پر بہت بڑا تعجب ہوا تھا ہے جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتداء احرام میں واقع ہوانہ معلوم اس قدر اختلاف کیونکہ بڑا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی اصلاحیت خوب معلوم ہے، حقیقت یہ ہوئی تھی کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ حرجت کے بعد صرف ایک حج کیا ہے (وہ بھی آخر مری میں اس لئے لوگوں کا مجیع سمت ہی زیادہ ہو گیا تھا جس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت ج ہا کرستے ریکھا اسی کو اصل سمجھا) اس بنابری اختلاف ہو گیا اس احرام کا نقطہ ہوا تھا کہ بت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے سفر حج میں ذوالحجۃ کو قیام گاہ بن کر لیں کی مسجد میں وہ نہ احرام ادا فرمایا تو اسی وقت احرام یا نہ دیا تھا اس وقت جبکہ قدر

جمع موجود تھا انہوں نے سُنا اور آئندہ کے لئے نقل کیا کہ ابتداء راحرام دو گانہ کے بعد مسجد
 ہی میں ہوئی ہے اس سے فراغت پا کر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن پر سفر
 ہوئے جب اذنی آپ کو لے کر کھڑی ہوئی اس وقت آپ نے پھر باداں بلند لبیک پڑھی۔
 اس وقت ایک بڑے مجمع نے درستک سُنا جن لوگوں نے پہلے بھی ساتھا ان کو معلوم
 تھا کہ یہ لبیک دوسرا مرتبہ کی ہے لیکن جن حضرات نے یہ ہنسنی ہے انہوں نے یہا
 نقل کیا کہ خواز نے اذنی پر سوار ہونے کے بعد راحرام کی ابتداء فرمائی مجمع کی کثرت کی
 وجہ سے زمامِ مجمع میں حضورؐ کی آداز جا سکتی تھی نہ سب ایک یا دو مرتبہ میں حضورؐ سے
 مل سکتے تھے اس لئے جماعتوں کے لیکر ٹرے ملکوٹے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں آتے تھے اور مسائل معلوم کرتے تھے۔ بالجملہ حضورؐ کی اذنی یہاں سے
 بیدار کی بلندی پر چڑھی حضورؐ نے (چونکہ حاجی کے لئے بلند مقام پر لبیک کہنا متوجہ ہے
 اس لئے) دہاں بھی لبیک باداًز کی اس وقت جو مجمع قریب ہو گیا تھا اس نے سُنا
 اور کبھی کہ حضورؐ نے بیدار پر راحرام باندھا حالانکہ خدا کی قسم حضورؐ نے اپنے مصلحتی پر
 راحرام باندھا تھا، البتہ لبیک سب جگہ کبھی یا اسی چونکہ سعید بن جبیر نے مختلف روایات
 میں اس لئے ان کو تحقیق کی حزورت پیش آئی اور حسنِ الفاق کہ عبداللہ بن عباسؓ
 اس سب قصہ سے واقف تھے۔ اس لئے نہایت وثوق سے قسمیہ حقیقی ابتداء تبلادی
 اور چونکہ فقیر اور مجتہد بھی تھے اس لئے ان سب روایات مختلف کے اختلاف کی وجہ
 ان کی جمع کی صورت بھی تبلادی لیکن جس عامی کے سامنے ان سب مختلف روایات کا
 صرف لفظی ترجیح ہو وہ بیچارہ بھر تحریر و پریشانی کے اور کیا کہ سکتا ہے لا محالہ پریشان
 ہو گا، اور مختلف الاتوار اشکالات پیش آئیں گے، اسی لئے با آخر حضرات غیر
 مقلدین کو بھی اپنے آشید و تعصب کے باوجود تعلیم سے منزہ ہوا ہحضرت گنگوہی نواز شد
 مرقدہ نے "سبیل الرشاد" میں مولوی محمد حسین صاحب طلبالوی رئیس غیر مقلدین کا قول
 ان کے رسالت "اشاعۃ السنۃ" سے نقل کیا ہے کہ نمبر اجلد ۱۱ کے صلا ۷۳ میں لکھتے ہیں

کر غیر مجتهد مطلق کے لئے مجتہدین سے قرار و ازکار کی گنجائش نہیں اور نسبت جلد ۱۱
 ص ۵۳ پر لکھتے ہیں کہ پچس^{۲۵} برس کے تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے
 علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تعلیم کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر سلام کو
 سلام کر بیٹھتے ہیں، ان میں بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لامذہ ہب جو کسی دین
 دمذہ ہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعت سے فسق و خروج تو اس آزادی کا
 ادنیٰ تیجہ ہے اُسی،

اختلاف روایات کی پانچویں وجہ

بھی اسی کے قریب قریب ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلیم کو مختلف
 گروہ نے ایک کام کرتے ہوئے دیکھا بعض لوگوں نے اس فعل کواتفاق خیال
 کیا، اس لئے امور طبیعیہ عادیہ میں کیجا، دوسرا بعض نے اس کو معصود اور فعل
 ارادی خیال فرمایا انہوں نے اس کو سنت اور مستحب لقل فرمایا اس کی بہت سی
 امثلہ کتب حدیث کے ناظرین کو معلوم ہوں گی نمونہ کے سور پرجۃ الوداع میں نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام البطح کو دیکھا جائے کہ اس سے کسی کو انکا نہیں
 کہ حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہما کی رائے
 ہے کہ یہ بھی افعال مناسک حج سے ہے اور حاجی کے لئے وہاں کا قیام سنت ہے
 لیکن حضرت مارثہ[ؓ] اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ ہے کہ یہ قیام
 اتفاقی تھا اس کو مناسک حج سے کوئی سر دکار نہیں، خدام نے وہاں خیمه نصب کر دیا
 تھا اس لئے حضور نے وہاں قیام فرمایا، نیز مدینہ منورہ روائی کے لئے بھی وہ سہل
 تھا کہ اِحرم سے ادھر قافلہ کی روائی بہولت ہو جائے گی۔

یہاں اب مجتہد اور فقیہ کی ضرورت سے کس کو ازکار ہو سکتا ہے جس کے لئے
 ضروری ہے کہ اس قیام کے متعلق دیگر صحابہ کی روایات اور آراء کو جمع کر کے ان دونوں

تو لوں میں سے کسی کو ترجیح دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر کہ منزلت احادیث انشاء اللہ بخیف بن کنانۃ حیث تقاسوا علی الحکمر۔ یعنی ہم کل اشارہ اللہ خیف بن کنانۃ میں منزل کریں گے جہاں ابتداء عہد نبوت میں کفار مکہ نے حضور کی مخالفت پر آپ میں معاهدہ کیا تھا یہ الغاذ صاف بلار ہے کہ اس جگہ قیام اتفاقی نہیں بلکہ قصدًا شمار کفار کے موقع پر شمار اسلام کے اظہار کا حکم تھا۔ اب اس کے ساتھ اگر اور مصالح بھی منضم ہو جاویں کہ مشلاً مدینہ منورہ کا راستہ ہی چونکہ اسی طرف کو ہے اس لیے والپی میں سہولت ہو وغیرہ وغیرہ دو اسکو مقتضی نہیں کہ وہاں قیام قصدًا نہیں تھا۔

اختلاف روایات کی چھٹی وجہ

بس اوقات روایات حدیث میں اختلاف علت حکم کے اختلاف کی وجہ سے بھی پیش آتا ہے۔ مشلاً یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتھے ایک کافر کا جنازہ قریب کو گزر آپ فوراً کھڑے ہو گئے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان ملائکہ کی تنظیم کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے جو جنازہ کی ساتھ تھے۔ اس صورت میں مومن کا جنازہ اگر گذرے تو بطریق اولیٰ کھڑے ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کے نزدیک قیام کی یہ علت ہے وہ کافر کا لفظ روایت میں ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے اس لیے کہ ان کے نزدیک صاحب جنازہ کے کافر یا مسلمان ہونے کو اس میں دخل نہیں،

لیکن درسری بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کھڑے ہوئے کہ کافر کا جنازہ مسلمانوں کے سرے اونچے کو گزرے کہ اس میں مسلمانوں کی اہانت ہے، اس صورت میں قیام صرف کافر کے جنازہ کے ساتھ عضو صلحاء اور روایت میں کافر کے ذکر کرنے کی خاص طور سے

ضرورت ہے۔

ایسا طرح سے رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ ٹیکانی پر زمین دینا ہم لوگوں کے لئے نافع تھا مگر حضور نے منع فرمایا اللہ در رسول کی اطاعت سب منافع پر مقدم ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ٹیکانی پر زمین کا معاملہ کیا کرتے تھے اور اس میں کچھ نقصان نہیں سمجھتے تھے، مگر جب رافع بن خدیجؓ نے یہ بتلایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا تھا ہم نے چھوڑ دیا۔

رافع بن خدیجؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ ہمارے چجادغیرہ زمین ٹیکانی پر دیا کرتے تھے اس طرح پر کہ جو ڈول لیغی نالیوں کے قرب و جوار میں پیدا ہو دہ ماں کا بالقیہ کاشتکار کا، یا کوئی اور خاص حصہ زمین کا مشتمل اکر لیتے تھے حضور نے اس کو منع فرمادیا، کسی نے رافعؓ سے پوچھا کہ اگر روپیوں سے لگان مقرر کر کے دے انہوں نے کہا اس میں کوئی نقصان نہیں۔

لیکن ان سب کے خلاف عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ تم ٹیکانی پر زمین دینا چھوڑ دو صحابہؓ اس سے روکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اعلم الصحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ حضور نے اس کو منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زمین اینے مسلم بھائی کو مفت کاشت کے لئے دے دے یہ بہتر ہے اس سے کہ اس پر کچھ معاوضہ لے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق اس ممانعت کی علت حسِ سلوک ہے ایک مسلم کے ساتھ کہ فقیہ عدم جواز لیکن رافعؓ کے نزدیک ممانعت کی علت عدم جواز ہے، الیسی ہی کتب حدیث میں اس کی سینکڑوں مثالیں نکلیں گی، نہ احصار ہو سکتا ہے نہ مقصود، غرض یہ ہے کہ روایات میں بسا اوقات حکم کو کسی ایک روایت کرنے والے نے کسی علت پر محروم سمجھا۔ دوسرے روایت کرنے والے نے کسی دوسرے علت پر مغلظ سمجھا، دو دونوں اپنی اپنی فہم کے موافق اس کو اس ہی طرح نقل فرمائیں گے جس طرح ان کے

ذہن میں ہے، لیکن جس شخص کے سامنے دونوں طرح کی روایات ہیں اور اصول وجہہ دو یقیناً ایک علت کو ترجیح دے کر کسی ایک روایت کو اصل قرار دے گا اور دوسری کے لیے کسی توجیہہ کی فکر کرے گا، مگر کون ! صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سامنے ہر ہر مضمون کی سینکڑوں روایات موجود ہوں ہر ہر حدیث کے مختلف الفاظ مستخر ہوں۔ مختلف اس شخص کے جس کے سامنے صرف ایک ہی حدیث کا ترجیہہ ہونا اس کو دوسری حدیث کا تعارض کا علم نہ وجہہ ترجیح کی خبر، وہ کیا علت کے رجحان کو سمجھ سکتا ہے اور کیا کسی حدیث کو ترجیح دے سکتا ہے۔

اختلاف روایات کی سائیں وجہہ

روایات حدیث کے اختلاف کی ایک بڑی وجہہ بھی ہے کہ بہت سے الفاظ کلام میں ایسے مستعمل ہوتے ہیں جن کے لغوی معنی بھی مستعمل نہیں اصطلاحی بھی، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنی کے لحاظ سے کوئی کلام ارشاد فرمایا جس کو بعض سننے والوں نے دوسرے معنی میں استعمال کیا، اس کی ایک دو مشاہد نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں میں گی، مثلاً وضو کا فقط اصطلاحی معنی کے لحاظ سے متعارف وضو کے معنی میں ہوتا ہے لیکن معنی الخواری کے لحاظ سے لطافت، ستمرانی پاکیزگی اور ما تحد ہونے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے شمال ترمذی کی روایت ہے کہ سلمان فارسیؓ نے حضورؐ سے عرض کیا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنا برکت طعام کا سبب ہے، حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد دونوں وقت وضو کرنا برکت طعام کا سبب ہے، اس جگہ پر سلمانؓ کے کلام میں بھی اور حضورؐ کے ارشاد میں بھی وضو کا فقط بالاتفاق ما تحد ہونے کے معنی میں ہے۔

ایسے ہی ترمذی شریعت میں مکراش کی ایک طویل حدیث ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اس کھانے سے فراخست پر پانی لا بایا گیا حضورؐ نے اپنے دست مبارک

دھوکہ نا تھوں کو منہ پر اور بازوں پر پھیر دیا۔ اور فرمایا کہ مکراش آگ کی بکی ہوتی چنیروں سے جو دھو رکا حکم ہے وو ہی دھو ہے، روایت اگرچہ متکلم فیہے لیکن اتنا ہز در ہے کہ اس حدیث میں دھو را اصطلاحی مراد نہیں۔"

ایسے ہی جمع القوائد میں برداشت بزار نقل کیا ہے، حضرت معاذ سے کسی نے پوچھا کہ تم آگ کی بکی ہوئی چنیروں سے دھو رکی کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ منہ دھولیتے تھے اور اس کو ہی دھو ر سے تعمیر کیا کرتے تھے انہی روایات کی بناء پر انہمار لعجہ کااتفاق ہے کہ آگ کی بکی ہوئی چنیروں کے بارہ میں جہاں جہاں روایات حدیث میں دھو رکا حکم آیا ہے اس سے یادھو ر لغوی مراد ہے یا وہ حکم منسون ہے۔

ایسا طرح حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ بعض اعضا و دھوکہ کو دھوکہ یہ ارشاد فرمایا کہ هذا دضوء من لم يحذث یہ اس شخص کا دھو ر ہے جو پہلے سے یاد دھو ر ہو، اب یعنی امر ہے کہ بعض اعضا کے دھونے کو شرعی دھو ر نہ کہ جائے گا، یہ مثال کے طور پر وہ واضح گناہ کے میں جہاں قطعاً دھو ر اصطلاحی نہیں۔ جس سے یہ امر ظاہر کرنا ہے کہ لفظ دھو ر اور ایسے ہی بعض دیگر الفاظ بھی معنی لغوی و اصطلاحی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، اب اخلاق کا بدب اس سے خود واضح ہو جائے گا کہ اب اوقات الی صورت بھی پیش آئے گی کہ ایسے موارق میں بعض نقل کرنے والے اس کو دھو ر اصطلاحی پر جمل فرمائیں گے، وہ یعنیاً توضیح کئے لئے کو ضوء للصلوة کا لفظ بھی اضافہ کریں گے۔ تاکہ استباء کا محمل نہ رہے اور سختے والے کو خلیجان نہ ہو۔ اور اس کے بال مقابل جس شخص کی تحقیق کے موافق یہ دھو ر اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی ہے وہ یعنیاً اس ہاتھ منہ دھونے کی ساتھ نقل کرے گا۔ اسی خیال سے کہ سختے والے کو استباء نہ ہو اور حدیث کے ساتھ اس کی تفسیر بھی ہو جاوے اب اس مگہ اختلاف

روایات بھی لابدی ہو گی اور اس کی وجہ سے اختلاف صحابہ اور تابعین اور اہل کے بعد اختلاف فقہاء بھی لازمی ہو گیا۔ یہی وجہ ہوتی کہ اول زمانہ میں آگ کی پکی ہوتی چیز دن کے کھانے سے دضور کا واجب ہونا مختلف فیہ رہا لیکن اخیر دور میں اگر آئندے زمانہ میں چونکہ روایات وضور کے تقریب نے دالی تریادہ نہیں اس نئے عدم وجوب کو ترجیح ہو گئی اور انہر اربعہ کا وضور نہ ٹوٹنے پر آفاق ہو گیا لیکن میکٹروں میں ایسے ہیں کہ جن میں اس اختلاف کی وجہ سے انہر متبوعین اور اہل مناذب میں اختلاف باقی رہا مثلاً مس ذکر کی وجہ سے وضور کا حکم حضور کا ارشاد ہے من مس ذکرہ فلیتوضاء جو شخص اپنی شرمنگاہ کو چھوئے اس کو چاہئے کہ وضور کے صحابہ تابعین اور انہر متبوعین اس میں مختلف ہیں کہ اس وضور سے کوئی وضور مراد ہے بعض کی رائے ہے کہ وضور اصل مراجح مراد ہے اور بعض کی تحقیق ہے کہ وضور لغوی مراد ہے ایسے ہی دوسرا اختلاف اس میں یہ پیش آیا کہ بعض کے نزدیک چھوٹے کا لفظ اپنے تحقیقی معنی میں متصل ہے مطلقاً ہاتھ لگانا مراد ہے دوسرے بعض کا خیال ہے کہ اس جگہ مس سے جس کے معنی چھونے کے ہیں پیش اب کرنا مراد ہے اس نئے کہ اس کے بعد میں استنباط کھانے کے لئے ہاتھ سے چھوپا جاتا ہے۔ اسی طرح وضور کے حکم میں بھی اختلاف لازمی تھا اور ہوا کہ بعض حضرات نے اس کو وجوب پر چمл فرمایا اور صدری خیال کیا چنانچہ وضور کو واجب قرار دے دیا اور دوسرے بعض حضرات نے افضلیت اور استحباب پر چمл فرمایا کہ وضور کو مستحب قرار دیا جس کو ہم اٹھوئں نمبر پر ہم دضاحت سے بیان کریں گے اسی ہی قبیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نماز کے سامنے کو عورت گٹتا اور گدھے کے گذرنے سے نماز قطع ہونے سے نماز کا حقیقتہ فاسد ہو جانا سمجھا اور ان کے نزدیک نماز فاسد ہو گئی۔ لیکن دوسرے بعض صحابہ اور اہل فقہ اہت لوگوں کی رائے ہے کہ نماز کے فساد کو ان جنیوں

سے کوئی خاص تعلق نہیں اس لئے یقیناً اس کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ نماز قطعہ ہو جائے سے نماز کا خشوع قطعہ ہو جانا مراد ہے اس کے لئے ایک در نہیں متعدد قرآن موجود ہیں جو اپنے اپنے موقع پر مذکور ہیں۔ اختصاراً ہم نے ترک کر دیا۔

اختلاف روایات کی اٹھویں وجہ

جو ساتویں وجہ کے قریب ہے جس کی طرف اجمالاً اشارہ بھی گزرا چکا ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یا کسی کام کی ممانعت فرمائی حکم ہر زبان میں مختلف الانداز ہوتا ہی ہے۔ بعض سننہ داروں نے اس کو قطعی اور واجب الاطاعت قرار دیا ان کے نزدیک اس کام کا کرنا واجب اور ضروری بن گیا دوسرے بعض نے اس کو بہتری اور افضلیت کے لئے سمجھا۔ اور تیسرا جماعت نے مثلاً صرف اجازت کا درجہ سمجھا۔ اسی قبیل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ضور کے ساتھ تاک میں پانی ڈالنے کے بارہ میں ہیں کہ ایک جماعت نے ظاہر حکم کے لحاظ سے اس کو واجب قرار دیا۔ اور دوسرے گروہ نے اور قرآن کی وجہ سے اس کو افضلیت اور استحباب پر محمول فرمایا۔ ایسے ہی سو کراچنے کے بعد وضور سے قبل ہاتھ دھونے کا حکم ایک گروہ کے ردیک اپنے ظاہر پر ہے اور ہاتھ دھونا اس وقت واجب ہے دوسری جماعت کے نزدیک استحباب و سنت کا درجہ ہے اور درحقیقت وہ اختلاف زیادہ طویل البیث ہے اور اس کے رفع کے لئے بجز مجتہد اور فقیر کے چارہ کا رہی نہیں اس لئے کہ مجرد حکم سلطنت ہونے کی صورت میں ہر شخص مجبور ہے کہ اور اور مراد دوسرے احکامات کو دیکھ کر اسے قائم کرے کہ یہ حکم کس درجہ کا ہے۔

اگر ایک حدیث میں الحیات میں بُشیخہ پر شہید پڑھنے کا حکم ہے تو دوسری حدیث میں اَتَلَوَ الْأَسْوَدَيْنَ فِي الْصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ نماز میں رو

چیز سانپ اور چھوکے قتل کرنے کا حکم ہے اور نظام ہر ہے کہ دو نوں حکم ایک درجہ کے نہیں اور اس ہی بناء پر خود الامر مجتہدین میں اس موقع پر زیادہ اختلاف ہوا ہے کہ یہ امر و جوب کے لئے ہے یا استحباب و افضلیت کے لئے۔ اس ہی وجہ سے ائمہ میں اختلاف ہے کہ نماز میں تکبیرات انتقالات کا حکم رکوع و سجود میں اطمینان کا حکم نیز ان میں تسبیحات کا حکم التہیات پڑھنے کا حکم یہ سب احکام و جوب کے لئے میں یا استحباب و افضلیت کے لئے ہر مجتہد نے رحمہم اللہ تعالیٰ نہایت جانشنا نی اور عرق ریزی سے دوسری روایات حضورؐ کے اعمال صحابہؓ کے افعال اور اصول ترجیح کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں تفریق فرمائی۔ اور مہر حکم کو اپنی تحقیق کے بعد اس کے موقع پر چھپاں کیا۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ مجتہد کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے اور تقلید بغیر کیوں چارہ نہیں۔ صرف بخاری شریعت کے ترجیب میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیکھ لینے سے نہ جوب معلوم ہو سکتا ہے نہ استحباب و حیاز۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے حدیث پڑھنے کے لئے اصول فقة اصول حدیث پہلے پڑھنا ضروری قرار دیا ہے کہ مجتہد کے لئے کم از کم علم قرآن یعنی اس کے احکام خاص عام مجمل منفرد حکم متعلق ناسخ منسوخ وغیرہ وغیرہ کو جانے اور علم حدیث سے کا حصہ ادا قف ہو کر روایت کے مراتب متواتر غیر متواتر مترسل و متصل صحیح و معلل وضعیت قوی نیز رہا کے درجات کو جانتا ہو اس کے علاوہ لغات کا ماہر احکام نحویہ سے داقف ہو نیز اقوال صحابہ و تابعین سے داقف ہو کہ کس مصنفوں پر اجماع ہے اور کس میں اختلاف ان سب کے بعد قیاس کے انواع و اقسام سے بھی داقف ہو۔

اختلاف روایات کی توثیق و جبہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گبر ہر بار سے با اوقات بعض احکام

تشنید املا ذہان یعنی غور و فکر کے لئے قادر ہوتے تھے بنی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو شخصوں سے نجی گلگی لشکر نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے وضو اور نماز کے اعادہ کا حکم فرمایا۔ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بُری طرح جلدی نماز پڑھی حضور نے فرمایا کہ جاؤ ہیٹ کر نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں بولی وہ دوبارہ نماز پڑھ کر حاضر ہوئے حضور نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ میرنی دفعہ کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ مجھے سمجھا دیجئے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے اطمینان سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ ایسے موقع میں بھی اختلاف لازمی ہے کہ ہر سنتہ والا اس کو اپنے ہی محل پرچیاں کرے یہ صورتی نہیں اس کی جزئیات اگرچہ زیادہ نہ ہوں لیکن اسباب اختلاف میں دخل صورتیں ہیں۔

اختلاف روایات کی دسویں وجہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت کے لئے بنی مرسل تھے تو خدام کے لئے طبیب جمنی اور عشاق کے لئے طبیب روحانی اور رعایا کے لئے امیر بھی تھے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ سے زیادہ شفیق دمہربان تھے تو استاد و شیخ سے زیادہ تربیت و تہذیب فرمانے والے تھے اگر شفقت کے باپ سے سینکڑوں احکام ملتے ہیں تو تشدید و تنہیہ کے طور پر بھی ہیئت سے ارشادات ملیں گے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ جن میں ذرا بھ۔ شائیہ اشکال و شبہ نہیں اس کی بہاہت ہر شخص پر نظاہر ہے۔ اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اور ارشادات جو ایک حیثیت سے دارد تھے دوسری حیثیت کے ساتھ ملتبس ہو جانے لازمی تھے۔ اگرچہ امور ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو مستقل و جدا قرار دے کر اس کو علیحدہ پیش کیا جاتا مگر مصنفوں بلا ارادہ طول پکڑتا جادہ ہے گو اس کی اہمیت اس سے زیادہ تفصیل کی محتاج ہے۔ مگر ناظرین کی بد دلی کے

خیال سے جو طول کا اکثری تیجہ ہوتا ہے ان سب دجوہ کو ایک ہی میں داخل کر دیا گیا ہے تھا کہ
 مسٹا چند امثالہ مپاس بحث کو ختم کرتا ہوں جنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
 مستحاضہ، یعنی جس عورت کو تسلی خون کا عارضہ ہو جنور نے اس کے بارہ میں ارشاد
 فرمایا ہے کہ ظہرِ عشر کے لئے ایک غسل کرے اور مغربِ عشار کے لئے دوسرا اور صبح کے
 لئے تیسرا۔ علماء کا اختلاف ہے کہ یغسلِ تشریعی ہے یا علاجی بنی کرم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے شرمنگاہ کے چھوٹے پر دخور کا بھی حکم ہے اور یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ تو ایسے ہی گوشت
 کا جز ہے جیسے ادا جزائے بدن، جس طرح اور کسی حضور کے چھوٹے سے دخور واجب
 نہیں ہوتا اسی طرح یہ بھی ہے علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ یہ حکم عامہ مسلمین کے لئے ہے۔
 اور پہلا حکم خاص ہے اکابر امت کے لئے اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے
 کہ عورت کے چھوٹے سے دخور ٹوٹ جاتی ہے دوسرا بعض روایات سے معلوم ہوتا
 ہے کہ دخور نہیں ٹوٹا علامہ کے اس میں بھی مختلف اقوال ہیں اور مختلف وجہ سے ان
 دونوں میں ترجیح یا بحیثیت کیا گیا ہے علامہ شعرانی کی رائے میں بھی وہی ہے کہ ایک حکم
 اکابر امت کے لئے دوسرا عوام کے لئے ہے۔ اسی طرح جنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ایک جنگ میں ارشاد ہے (من قتل قتیلا فله سلبہ) جو کسی کافر کو قتل کر دے
 اس مقتول کے پاس جقدار سامان ہے وہ اس قاتل کو مل جائے گا۔ اللہ کی ایک
 جماعت کی رائے ہے کہ یہ حکم سیاسی اور انتظامی ہے جنور نے بحیثیت بادشاہ کے
 یہ حکم فرمایا تھا لہذا امیر کو یہ اختیار ہے کہ جس جنگ میں مصلحت سمجھے اس کا اعلان
 کر دے دوسرا یہ ایک گردہ کی رائے ہے کہ یہ حکم تشریعی ہے جمیش کے لئے معمول ہے
 ہے امیر کے کہنے پر موقوف نہیں کتاب الجہاد کی ہزاروں حدیثیں اس اختلاف کا
 امثلہ ہے پوچھیں۔ ایسے ہی مزاجعت کے بارہ میں اکثر روایات میں مخالفت کی وجہ
 مزدوروں پر شفقت ہے جو روایات دیکھنے والوں پر ظاہر ہے، اسی طرح باب الفصوم
 بہت سے لوگوں کو کثرت سے روزہ رکھنے کی مخالفت ان پر شفقت سے تھی عبد اللہ

بن عمر دیکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے اس کی اطلاع ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن بھر گزد رکھتے ہو اور رات بھر تقاضیں پڑھتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ بشیک حضور نے فرمایا ایسا نہیں کرو کبھی روزہ کبھی انطہار ایسے ہی رات کے بعض حصہ میں تواطل ادا کرو اور کچھ حصہ سو بھی رہا کرو۔ اس لئے کہ بدن کا بھی تم پر جتی ہے۔ اس صورت میں تکان نہیں ہو گا اہل دعیاں کا بھی حق ہے کہ ان کے لئے بھی کچھ وقت دن رات کا فارغ کرنا چاہیے وہ سب احباب ملاقات کرنے والوں کا بھی حق ہے ہر ہفتہ میں تین روزے ایک ماہ میں ایک ختم قرآن کافی ہے میں نے عرض کیا حضور اس سے تو یہ تزادہ طاقت ہے مکر رسم کر ر عرض کرنے پر ارشاد فرمایا کہ اچھا بس صوم داؤ دی سے زیادہ کی اجازت نہیں کہ ایک دن روزہ ایک دن انطہار اسی طرح قرآن شریف کہ سات راتوں سے کم میں ختم کی اجازت نہیں فرمائی۔ اس روایت کے الفاظ کتب حدیث میں کچھ مختلف وارد ہوئے ہیں اس حدیث کے موافق جس کو مشکوہ میں بخدا مسلم کے حوالے سے نقل کی گئی ہے دائرہ روزہ کی ممانعت اور ابتدا اسی طرح صوم داؤ دی پر زیادہ کی مانع اخیر حدیث میں ان پر شفقت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے اسی لئے عبدالرشد بن عمر و اپنے ضعف و پریدی کے زمانہ میں افسوس کیا کرتے تھے کہ اس وقت میں حضور کی رخصت کو قبول کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اسی طرح تنقیبہ دلشد کے قبل سے بہت سے ارشادات کتب حدیث میں ملتے ہیں حضور کا ارشاد ہے کہ لا صام من صام الدھر جو عمر بھر روزہ رکھتا ہے اس کا کچھ روزہ نہیں ایک جماعت کے نزدیک یہ ارشاد تنقیبہ اور ڈانٹ کے طور پر ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کو روزہ کا نواب نہیں ہو گا۔ یا اس کا روزہ ہی سے سے نہ ہو گا۔ اسی طرح حضور کا ارشاد کہ زانی زتا کے وقت مومن نہیں ہوتا اور ساری سرقة کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور کا ارشاد ہے کہ جو شراب پویے جالیں دن تک اس کی نماز قبل نہیں ہوتی۔ (ملک عشرہ کاملہ)

مثال کے طور پر یہ چند وجوہ بیان کی گئی ہیں درہ ان میں انحصار نہیں صرف اس امر کو ظاہر کرتا تھا کہ روایات میں اختلاف کی حقیقت وجوہ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اختلاف لازمی تھا اور ہونا چاہیے ہی تھا وجوہ اختلاف تک مختصر تحریر میں اسکتی ہیں نہ بھروسے ہے ابعاد اس کے امکان میں ان کا انحصار ہے مقصود ان اور اس سے اجمالاً حاصل ہو گیا ہے کہ بنی کرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کا اختلاف فی الواقع موجود ہے اور اس کے دجوہ کثیرہ میں سے مثال کے طور پر یہ چند وجوہ میں جو ذکر کر دی گئیں اسکے بعد مجھے یہ دکھلاتا ہے کہ دوسرے دور میں یعنی صحابہؓ کے زمانہ میں ان وجہہ بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی وجہہ پیش آئیں کہ ان کے لئے اختلاف روایات لازمی تھا۔ اور مثال کے طور پر اس کی بھی چند نظریں ہدایتہ ناظرین کرنی ہیں مگر اس جگہ پر ایک فضول اشکال پیش آتا ہے۔ اس لئے اول اس کو ذکر کرتا ہوں اس کے بعد دوسرا در شروع کروں گا۔

یہاں ایک اشکال یہ دار ہوتا ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ تعلیم امت ہی کے لئے مسجوت ہوئے تھے اور یہی بڑی غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اوری سے والبتر تھی۔ تو آپ نے جملہ احکام شرعیہ کو مفصل و واضح ممتاز حالت میں کیوں نہ ارشاد فرمادیا جس سے یہ الجھن ہی یکسر اٹھ جاتی اور کسی قسم کی خلثت ہی باقی نہ رہتی، ظاہری صورت میں تو یہ اشکال بہت ہی واضح ہے لیکن حقیقت میں نہایت ہی مجمل خدمت ہے جو احکام شرعیہ پر تکلف نظر سے دار ہوتا ہے اور فی الواقع حسنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حال پر نیات درجہ کرم اور شفقت تھی کہ ان معمولی فرد عی مسائل کا ایسا انقباط نہیں فرمایا کہ جس کی وجہ سے امت کو تنگی پیش آئے بلکہ احکام دینیہ کو دو حصوں پر منقسم فرمادیا ایک وہ احکام ہیں کہ جن میں غور و خوض و بحث و مباحثہ غیر پسندیدہ قرار فرمادیا وہ احکام ہیں جن میں اختلاف کو رحمت کا سبب قرار دیا اور ہوت

امت کے لئے ہر فعل کو خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو باعث اجر قرار دے دیا تیرٹکی یعنی
لایپرو ایسے غلط روی اختیار نہ کی ہو دوسرے الفاظ میں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے
احکام کو دو طریقوں منقسم کر دیا ایک قطعی جن میں کرنے والوں کے فہم و سمجھو کو دخل
نہیں رکھا جو واضح الفاظ میں بیان فرمادیے اور ان میں توجیہہ و تاویل کی بھی گنجائش
نہیں رکھی۔ تاویل سے بھی انحراف کرنے والے کو خاطلی و گراہ قرار دیا۔ دوسرے وہ احکام
ہیں جن میں شریعت نے تنگی نہیں فرمائی بلکہ اس میں امت کے ضعف پر نظر فرماتے ہر نے
امت کی سہولت کو مد نظر کھا اور اس میں توجیہہ تاویل کی وجہ سے عمل نہ کرتے والوں
کو خاطلی اور بد دین سے تعبیر نہیں فرمایا۔ قسم اول کو اعتقادیات سے تعبیر کیا جاتا ہے
اور قسم ثالث کو جزئیات فرعیات شرعیات وغیرہ وغیرہ اسلام سے پکارا جاتا ہے اس
دوسری نوع میں حقیقتہ الامر ہے کہ شریعت نے اس میں خود ہی تنگی نہیں فرمائی۔
اس لئے اس کو تفصیل کے ساتھ کہ ارکان و واجبات وغیرہ خود شارع کی جانب
سے عینی و مفصل ہو جاتے تو یہ بھی نوع اول میں داخل ہو کر امت کے لئے سخت تنگی کا
سبب ہو جاتا اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اختلاف سے خلو مشکل ہوتا۔ ایسے
کردہ حکائیں سب کے سب الفاظ ہی کے ذریعہ سے ارشاد فرمائی جاتیں۔ اور الفاظ میں پھر
مختلف محامل نکلتا قریب تھا۔ الفرض شریعت مطہرہ نے احکام کو اصول و فروع دو
امر میں منقسم فرمایا کہ امر اول میں اختلاف کی سختی سے مبالغت فرمادی چنانچہ آئیت مقدسہ
شرع لکھ میں الدین ما وصی بہ نوحاؤابراہیم و موسیٰ
و عیلیٰ ان اقیمو الدین و لَا تفرقوا فی الْآیةِ میں اختلاف فی الدین کی
محاذیت ہے اور قسم دوم میں اختلاف کو امت کے لئے رحمت کا سبب قرار دیا۔ اور ایسی
وجہ سے اس نوع کے اختلافات میں جس کے سینکڑوں دعائیات نبوی دو مرقدس میں گذرسے
ہیں ارشد نہیں فرمایا اشکر کے طور پر دعائیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ نسانی
نے طارق کے دام سے دصحابہ کا قصہ نقل فرمایا کہ وہ دونوں جنبی ہوئے ان میں سے

یک نے پانی نہ ملتے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی (غایب) تھم کا نزول اس وقت نہیں ہوا ہوگا۔
 یا ان کو نہیں پہنچا ہوگا (حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویب فرمائی۔ دوسرے
 صحابی نے تھم سے نماز ادا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تصویب فرمائی۔
 اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو تبدیل نبو قریظہ میں نماز حضر
 پڑھنے کا حکم فرمایا اس پر محمل کرتے والوں میں سے بعض نے وہاں عصر پڑھنے کے حکم کو
 اصل قرار دیا اور راستہ میں نماز نہ پڑھی اگرچہ نماز کو تاخیر ہوئی مگر ان لوگوں نے
 ظاہری احتیال امر کو ضروری خیال فرمایا۔ دوسری جماعت نے اسی امر کا حقیقی مقصد
 بیان کیا ہے پہنچا سمجھ کر راستہ میں عصر کی نماز لپنے وقت پر ادا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے دونوں فریق پر احترام نہیں فرمایا، بخاری میں یہ مفصل قصہ موجود ہے اس طرح
 کے اور بہت سے واقعات ہیں بالجملہ فرعی اختلاف اور چیز ہے اور اصولی اختلاف
 اور ہے جو لوگ اس اختلاف اصولی اختلاف کے مشاہد سمجھ کر الیٰ روایات و آیات کو
 اس پر چیل کرنا چاہتے ہیں جو اختلاف مذکور کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں وہ ان کی
 کا واقعیت یاد ہو کر دی ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ شریعت مطہرہ نے اس
 فرعی اختلاف میں ٹری دمعت و سہولت رکھی ہے اگر یہ صورت نہ ہوتی تو امت کے
 لئے اس قدر تنگی پیش آجائی کہ تمہل سے باہر ہو جاتا۔ اسی وجہ سے ہارون رشید نے جب
 بھی امام مالک سے یہ درخواست کی کہ وہ موطا امام مالک کو بیت اللہ شریعت پر لٹکا کر
 امت کو اس پر عمل کا امر کر دیں تاکہ افتراق نہ رہے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 کبھی بھی اس کو قبول نہیں فرمایا اور ہمیشہ یہی جواب دیا کہ صحابہ مسائل فرعیہ میں مختلف
 ہیں اور وہ سب منیب ہیں بلاد متفرقہ میں دونوں کے اقوال و ممالک معمول بہا
 ہیں ان کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایسے ہی جب منصور نے جمع کیا اور امام مالک سے
 درخواست کی کہ آپ اپنی مولفات مجھے دیجئے تاکہ میں ان کی تلقین بلاد اسلامیہ میں
 شائع کر دوں۔ اور مسلمانوں کو حکم کر دوں کہ ان سے مجاوز نہ ہوں تو آپ نے فرمایا

کے امیر المؤمنین ایسا ہرگز نہ کیجئے لوگوں کے پاس احادیث و اقوال صحابہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ان پر عامل ہیں ان کو اسی کے موافق عمل کرنے دیجئے ہیں منشاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ میری امت کا اختلاف رحمت کا سبب ہے اور یہی وہ کھلی رحمت ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے آج ہر امام کے نزدیک مختلف فیہ سائل ہیں دوسرے کے مذہب پر شرعی ضرورت کی وجہ سے فتویٰ دینا جائز ہے۔ لیکن اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو کسی ضرورت سے بھی اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ کو چھوڑنا جائز نہ ہوتا۔ غرض حقیقتہ میں اختلاف آئندہ شرعاً مطلوب ہے جس میں ایک ہی فائدة نہیں جو مذکور ہوا اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد مبتدا ہیں جو اگر وقت نے مساست کی تو انتشار اللہ دور ثالث کے ابجات میں آئیں گے اس وقت یہ بحث مقصود نہیں ہیاں صرف اسی قدر ضروری تھا جن لوگوں کی مسائل فقہیہ پر کچھ بھی تظری ہے وہ اس مقاد کو بہت ہی سہولت سے سمجھ سکتے ہیں،

ملامہ شعرانی اپنی کتاب المیزان میں تحریر فرماتے ہیں کہ عزیز من اگر تو نیطر انفاف دیکھے گا تو یہ حقیقت واضح اور منکشف ہو جاوے گی کہ ائمہ ارجعہ اور ان کے مقلد سب کے سب طرقی ہدایت پر ہیں اور اس کے بعد کسی امام کے کسی مقلد پر بھی اعتراض کا خیال نہیں ہو گا اس لئے کہ یہ امر ذہن نشین ہو جاوے گا کہ ائمہ ارجعہ کے ممالک شریعت مطہروں داخل ہیں اور ان کے مختلف اقوال امت کے لئے رحمت ہو کر نازل ہوئے حق تعالیٰ شانہ ہو جو علیم و حکیم ہیں ان کی مصلحت اسی امر کو مقتضی تھی حق بجا نہ احوالی اگر اس کو پسند نہ فرماتے تو اس کو بھی اسی طرح حرام قرار دیتے جس طرح کہ اصل دین میں اختلاف کو منوع قرار دیا۔ عزیز من مبادا تجوید پر یہ امر مشتبہ ہو جاوے کہ تو ائمہ کے فرعی اختلاف کو اصولی اختلاف کے مثابا اور اس کے حکم میں سمجھنے لگے جس کی وجہ سے تیرا قدم میدان ہلاکت میں پڑ جاوے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لئے صلاح فرعی کو رحمت قرار دیا ہے۔

درحقیقت ائمہ کے جملہ اقوال مشکوٰۃ بنوت سے مأخذ میں صرف اختلاف اور فرق ائمہ کے اقوال میں آتی ہے کہ کسی حکم شرعی کے متعلق ایک امام نے اصل حکم اور عزیمت کو اختیار کیا و دوسرے نے رخصت کو راجح سمجھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ائمہ کے اقوال میں تنخییر کا قابل ہوں کہ جس شخص کا دل چاہے اصل عزیمت پر عمل کر لے اور جس کا دل چاہے رخصت کو اختیار کر لے جیسا کہ بعض طلباء کو میرے کلام سے دھوکا ہو گیا نہیں، نہیں ایسا نہیں کہ یہ تودین کو کھلونا بنا نہیں ہے بلکہ ہر امام نے ان در طریقتوں میں سے ایک کو اختیار کیا ہے لیکن جو خمار ہے وہ اس کے مقلدین کے لئے دھوپی طریقہ ہے۔ میں نے یہ جو کچھ رائے قائم کی ہے ائمہ کے ساتھ مخفی حسنطن پر قائم نہیں کر لی بلکہ ہر امام کے اقوال اور ان کے مأخذ اور مستدلات کے تبع کے بعد اختیار کی ہے جس شخص کو اس کا یقین نہ آؤے وہ میری کتاب *المشنج المبین فی ادلة المجتهدین* دیکھئے اس وقت اس کو میریقصدیت ہو جاوے گی میں نے اس میں ہر امام کے مستدلات کو جمع کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ رائے قائم کی ہے وہ سب ہدایت پر تھے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی شیخ کامل کی فیض صحبت سے منازل سلوک طے نہ کئے جاویں یہ حقیقت کماحتہ منکشف نہیں ہوتی پس اگر تو بھی اس کامزہ چکچنا چاہے تو کسی کامل کے پاس جا کر ریاضت کر تاکہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ میں اس امر میں کچھ من گھرت نہیں کہتا مشايخ کے کلام سے اس کی تائید ہے۔ چنانچہ شیخ *المشنج عجی الدین ابن عربی فتوحات مکہ* میں لکھتے ہیں کہ:

آدمی جب کسی خاص مذہب کا پابند ہو کر مقامات میں ترقی کرتا ہے تو منہما پر دہ ایسے دریا پر پہنچتا ہے جس سے سب ائمہ بھر رہے ہیں اس وقت اس کو جملہ ائمہ کے مذاہب حق ہونے کا یقین ہو جاتا ہے اور اس کی مثال بعینہ رسول کی ہی ہے کہ حضرت دحی کا مشاہدہ ہوتا ہے اس وقت تمام شرائع کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اتنی مخصوصاً۔

ملازم شعر اپنی کا نفیں مصنفوں جو تقریباً سو صفحہ پختہ ہوا ہے آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے درحقیقت اس مقصد میں بے حد نافع اور مضید تمام مصنفوں مستقل ترجیح کر کے شائع ہونے کے قابل ہے۔

بعض اس جگہ پر اشارہ صرف اس قدر بیان کرنا مقصود ہے کہ درحقیقت یا اختلاف ائمہ جو بادی الرائے میں افتراق معلوم ہوتا ہے حقیقتاً افتراق نہیں اور جس درجہ میں ہے اس میں رہنا ایک نہایت ہی لا بدی امر ہے جس کا عدم بھی امت کے لئے سخت تنگی کا سبب ہے۔ اور چونکہ اختلاف ثمرہ ہے اختلاف روایات و احادیث کا اس لئے ان میں بھی دینی مصلحت اسی کی معقولیٰ تھی کہ ان کو اجمالی حالت میں آتا راجوئے اگر وہ حقائق شرعیہ عقائد کی طرف سے قطعی طور پر نازل کئے جائے تو اختلاف ائمہ کی گنجائش نہ رہتی۔ اور اس وقت اختلاف گمراہی کا سبب ہوتا اور عدم اختلاف امت کے لئے تنگی کا باعث ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شخص اپنی اپنی سمجھو کے موافق لفظوں سے استنباط اور اخذ کرے خواہ اس کی قابلیت رکھتا ہو یا نہیں کہ یہ سخت گمراہی کا سبب بن جاتا ہے اور یہ اختلاف بھی مدد و روح نہیں بلکہ مدد و روح اختلاف وہی ہے جو شرعاً قواعد اصول کے ماتحت ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے قصہ میں بعض اپنی سمجھو کے موافق استنباط کرنے والوں کو جہل سے تعبیر فرمایا ہے فله الحمد علی ما یسر لانا الدین فاتحہ لطیف خبیر و رئیف العبادہ بصیر۔



اُخْلَافُ رِوَايَاتٍ كَادُ وَسَرَادُورٌ

ان دجوہ کے علاوہ جو درادل میں گذر چکے ہیں صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں اور
بھی مخصوص دجوہ داسباب لیے بیش آئے کہ جن کی وجہ سے روایات حدیث میں

اختلاف ہوا اور یہ نازمی تھا۔ جس کی بڑی وجہ روایات بالمعنی تجویی صحابہ اور تابعین کے ابتدائی دور میں روایت باللفظ کا ابھام نہیں تھا بلکہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اپنے الفاظ میں نقل کر دیا جاتا تھا کما فی مصنف عبد الرزاق عن ابن سیرین قال حکمت اسعف الحدیث من عشرة کلامہ مختلف في اللفظ والمعنى واحد ابن سیرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث کو دس مشائخ سے سننا جس کو ہر ایک نے مختلف الفاظ سے روایت کیا اور معنی ایک تھے علماء ذہبی مذکورة الحفاظ میں ایوحا تم کا مقول نقل کرتے ہیں۔ ولما رأى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سود قبصۃ يعني قبصہ کے سواب میں نے کسی حدیث کو ایسا نہیں پایا کہ وہ الفاظ حدیث کو بعینہ ذکر کر دے۔

علام سیوطی نے تدریب الراوی میں اس بحث کو مفصل لکھا ہے جس میں علم کے فن کا اختلاف بھی اس بارہ میں نقل کیا ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں لیکن ائمہ ارجاع کا اس پر الفاق نقل کیا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ جو روایت کرنے والے کے اندر موجود ہوئی ضروری ہیں روایات بالمعنی جائز ہے طبرانی اور ابن منذہ کی ایک حدیث سے اس کے جواز پر استدلال کیا ہے جس میں عبد اللہ بن سلیمان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار نقل کیا ہے کہ میں جن الفاظ کو حضور سے سنتا ہوں اس کے بعد نہ نقل پر قادر نہیں ہوں حضور نے اگر معنی پورے ہو جاویں تو لفظ بدلتے کی صورت میں روایات کی اجازت فرمائی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پورے لفظ بارہ ہنے بھی مشکل میں اسی وجہ سے کھول نے جب وائل بن الاستحق سے یہ درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنادیں جو آپ نے حضور سے سُنی ہو اور اس میں کسی قسم کا دہم کسی قسم کی کمی نہیں بھول چوک نہ ہوئی ہو

تو انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہے مکھوں نے بڑھ کیا کہ ایسے جید حافظ نہیں کہ کوئی غلطی واقع نہ ہو اس پر دامت نے فرمایا کہ کلام اللہ شریف جو تم لوگوں کے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے غایت درجہ اس کے الفاظ کے حفظ کا اہتمام کیا جاتا ہے اس میں بھی دادا در فا " کی غلطی رہ جاتی ہے پھر حدیث بنوی اس طبق پر کس طرح سُنائی جا سکتی ہے حالانکہ بعض احادیث کو ایک ہی مرتبہ سُننے کی نوبت آئی ہے روایت حدیث میں معانی بنویم کا ادا ہو جانا بھی کافی سمجھا کر د۔

وکیع سے منقول ہے کہ اگر معنی ادا ہو جانے میں دست نہ دی جاتی تو امت بلاک ہو جاتی۔ ابن العربي کی رائے ہے کہ روایت بالمعنى صرف صحابہ ہی کے لئے جائز ہے اور کسی کو جائز نہیں مگر قاسم بن محمد ابن سیرین حسن۔ زہری۔ ابراہیم شعبی وغیرہ جماعت نے اس کے جواز کو بشرط مخصوص صد عالم رکھا ہے۔ سبھی اصل ہر سبے اس امر میں کہ تابعین کی ایک بڑی جماعت روایت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت نہیں فرماتی تھی بلکہ مسئلہ کے طور پر اس حدیث کو حکم شرعی کے تحت میں بیان فرماتے تھے اور منجلہ اور وجہ کثیرہ کے ایک بڑی وجہ امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت فرم کر بیان نہ کرنے کی یہ بھی ہے اور چونکہ الفاظ بدلتے کی صورت میں سور کی طرف نسبت کر کے روایت کرنا سخت خطرناک ہے کہ مبادا غلطی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط انتساب کی وسیدہ شدید میں خود نہ ہو جائے اس لئے اکابر علماء ہمیشہ حضور کی طرف نسبت سے بچتے تھے اس لئے کہ کوئی کام سہو غلطی یا غلط فہمی یا خطأ کا اس میں دخل نہ ہو سکے یہ دشوار امر ہے، اسی وجہ سے عبد اللہ بن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی۔ وہ شخص جن کے باسے میں ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ان کی حضور کے یہاں اس قدر آمد و رفت تھی

کہ ہم ان کو گھر والوں میں سے سمجھتے تھے وہ شخص جن کے لئے حضور نے لئے راز کی باتیں سننے کی بھی اجازت فرمائ کہی تھی وہ شخص جن کو حضور نے اپنی حیات میں تدریس قرآن و حدیث کا درس بنایا، وہ شخص جن کے بارہ میں حضور کا رشاد ہے کہ اگر میں بلا مشورہ کسی کو امیر بناؤ تو ابن مسعود کو بناؤ۔ وہ جن کو حضور نے بلارڈ ک نوک آنے کی اجازت دی رکھی تھی۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علمی فضائل جس کثرت سے وارد ہیں وہ بہت کم عام طور سے دوسرے صحابہ کے ہوں گے، اسی وجہ سے امام عظیم رضی اللہ عنہ نے اپنے فقہ کے لئے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ کو خاص مأخذ قرار دیا جس کو ہم اپنے موقع پر انتشار اللہ و صاحبت سے بیان کریں گے اس وقت یہ بتلانا ہے کہ ان کثرت فضائل اور کثرت علوم اور کثرت احادیث کے باوجود عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی نسبت حضور کی طرف بہت کم کیا کرتے تھے اب عمر و شیعیانی کہتے ہیں کہ میں ایک سال تک عبد اللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر رہا میں نے ان کو حضور کی طرف نسبت کر کے حدیث فرماتے ہیں مُنَا اگر الْفَاقَاً گھبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہدیتے تو یعنی پر لرزہ ہو جاتا تھا حضرت انسؓ جو حضور کے خاص خادم رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر مجھے خطا اور غلطی کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہی بہت سی احادیث مُنَا کو جو میں نے حضور سے سنی ہیں لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں میں داخل و عید نہ ہو جاؤں حضرت صہدیب صحابی فرماتے ہیں کہ ان غزوات کے قصہ جو حضور کی معیت میں ہوئے ہیں بیان کر دوں گا۔ لیکن اس طرح پر کہ حضور نے ایسا کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے واقعات ہیں جن سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا حضور کی طرف نسبت کر کے بیان نہ کرنا معلوم ہوتا ہے۔ انتشار اللہ ذر البط کے ساتھ اس جگہ نقل کروں گا جہاں امام صاحب رضی اللہ عنہ کی قلت حدیث پر بحث کرنی ہو گی اس

جگہ ان روایات کے مجملًا ذکر سے اتنا مقصود ہے کہ روایت بلفظ چونکہ مشکل تھی اس لئے ردایت بالمعنی نقل کی جاتی تھی اور اسی وجہ سے اجل صحابہ حضور کی طرف نسبت کم فرماتے تھے اور جب روایات کا بالمعنی ہوتا ثابت ہو گیا تو اس کے لئے اختلاف لا بدی اور ناگزیر ہے کہ تعبیرات مختلف سے روایت میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد جو خطبہ پڑھا اس میں احادیث نقل کرنے کی ممانعت فرمادی کہ یہ امت میں اختلاف کا سبب ہو گا۔

دور ثانی کی دوسری وجہ

صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں اختلاف روایات کی وجہ یہ بھی پیش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم ارشاد فرمایا تھا اس وقت کے حجاج نے اس کو سُننا اور سمجھا لیکن بعد میں وہ متور ہو گیا۔ مگر اول مرتبہ کے حاضرین میں سے بعض لوگ اس وقت موجود نہیں تھے وہ اسی طرح نقل فرماتے رہے چنانچہ متعدد روایات سے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامہ شریف پر مسح فرمایا معلوم ہوتا ہے لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں جہاں تک پہنچا ہے عامہ پر مسح کرنا ابتداء اسلام میں تھا پھر یہ حکم یا قی نہیں رہا یہی ابو سعید خدراوی حضور کا قول تھا ہمیں کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب لیکن ابن جاش فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ابتداء زمانہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ خود ہی محنت مزدوری کرتے تھے، تنگ حالی کی وجہ سے ملازم وغیرہ رکھنے کی ہمت نہیں تھی اور اون وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنچتے تھے تو محنت کے وقت پسینہ وغیرہ کی وجہ سے وہ سب بُودا رہ جاتے تھے اور نیز مسجد بھی تنگ تھی جس کی وجہ سے جب مسجد میں سب کا اجتماع ہوتا تھا تو پسینہ کی بُونمازوں کے

یہ تکمیلت دہ بھوتی تھی اس وجہ سے غسل اور خوشبو کے استعمال کا حکم فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے دعست فزاری اور مسجد میں تو سیع ہو گئی لہذا اب وہ حکم نہیں رہا، اسی قبیل سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایات ہیں جن سے آگے پکی ہوئی چیز دن سے وضو ٹوٹنا محلوم ہوتا ہے لیکن حضرت جابرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل آگ کی پکی ہوئی چیز دن سے وضو نہ فرمانا تھا۔ یہ صاف طور پر پلار ہا ہے کہ وضو کا حکم منسوخ ہے لیکن امام ابو داودؓ کے نزدیک حضرت جابرؓ کی حدیث کا یہ مطلب نہیں اسی وجہ سے ہم ایک جگہ دوسرا قول بھی نقل کر چکے ہیں جن کے نزدیک آگ سے پکی ہوئی چیز دن میں وضو سے مراد وضو لغوی یعنی ما تھہ منہ دھونا ہے تھہ کہ مصطلح وضو۔

دو شانی کی تفسیری وجہ سہو

اس پر علماء کا اجماع ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں لیکن معترضوں ہیں۔ ان کی جرح اور تضعیف نہیں کی جا سکتی چنانچہ اصحاب میں اہل سنت کا اس پر اجماع نقل کیا ہے لیکن سہو دلیان وغیرہ لوازمات بشرطی سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس لئے نقل میں سہو ہو جانا بھی ممکن ہے اور اسی وجہ سے روایت پر عمل کرنے والے کے لئے منجملہ اور ضروریات کے یہ بھی اہم ہے کہ اس روایت کو اسی نوع کی دوسری روایات سے ملا کر دیکھیں کہ ان کے مخالف تو نہیں اگر مخالف ہے تو درجہ مخالفت کی ت segue کرے اس نوع کی امثلہ کتب حدیث میں سنکڑوں ملیں گی۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرؓ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اسی مر کو سُنَا تو فرمایا کہ ابن عمر بھول گئے۔ حضورؐ نے کوئی عمرؓ رجب میں نہیں کیا۔ عمران بن حصینؓ کا مقولہ میں پہلے نقل کر چکا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ داٹہ مجھے

اس نذر احادیث یاد ہیں کہ اگر دروز تک برابر روایت کر دن تو کر سکتا ہوں مگر
یا اسی طبق ہے کہ اور صحابہ نے بھی میری طرح سے احادیث کو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے سُنا اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے لیکن پھر بھی روایت
میں غلطی کرتے ہیں۔ ہاں یہ صورت ہے کہ دیدہ والستہ جھوٹ نہیں بنتے اگر میں
بھی روایت کر دوں تو خوف ہے کہ ان میں نہ داخل ہو جاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی شخص حدیث سننے تو اس کو قسم دیئے کہ اسی
طرح سنی ہے۔ اسی دعیرے سے مشائخ فن نے ہر شخص کو عمل بالحدیث سے روکا ہے
تادقیک اس میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے کہ صحیح کوستیم سے صواب کو خلط سے
وائقی کو غلط سے ممتاز کرنے کی صلاحیت نہ ہو اسی کے قریب اختلاف روایات
کی ایک وجہ اختلاف ضبط ہے کہ نقل کرنے والوں سے دافعہ کے نقل کرنے میں
کچھ گڑ بڑ ہو گئی یہ کچھ مستبعد بات نہیں بعض اوقات بڑے سے بڑے نہیں عاقل
سے بات کے سمجھنے میں نقل کرنے میں تغیر کرنے میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے چنانچہ میں
پہلے نقل کر چکا ہوں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ مقولہ نقل فرماتے ہیں کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رہنے سے مذاب ہوتا
ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پر جرح فرماتے ہیں کہ دافعہ کے نقل
کرنے میں غلطی ہوئی۔ اصل قصہ اس طرح ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا گز را ایک یہودی سورت پر ہوا جو مر چکی تھی اور اس کے گھر لئے اس پر رُد ہے
تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ رُد رہے ہیں اور وہ مذاب قبر میں مبتلا ہے۔
تو حضرت عائشہ کے خیال کے موافق ان کے رہنے کو اس کے مذاب میں کوئی
دخل نہیں تھا، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اگر نہانے کی حاجت
میں صحیح صادق ہو جائے تو اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے بھی اس کو نقل فرماتے ہیں، اور خود ان کا فتویٰ بھی یہی تھا، چنانچہ فتح الباری

کتاب الصوم میں ڈبی تفصیل سے ان روایات کو جمع کیا گیا ہے، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ازدواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح کے وقت نہانے کی ضرورت ہوتی تھی لعدا اس دن روزہ بھی رکھ لیتے تھے، ایک جماعت حضور سے نقل کرتی ہے کہ نمازی کے سامنے سے اگر عورت یا گت گذر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عائشہؓ اس پر انکا فرماتی ہیں کہ یہ غلط ہے؛ فاطمہ بنت قیس نقل کرتی ہیں کہ تمین طلاق والی عورت کے خرد و نوش اور مکان کا صرفہ خادند کے ذمہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حبیبؓ حدیث پہنچی تو فرمادیا کہ میں قرآنی حکم کو ایک عورت کے کہنے سے کس وجہ چھوڑ دوں۔

غرض بہت سی امثلہ اس کی ملیں گی جہاں نقل کرنے والوں سے باہم جو دان کے معبر اور سچے ہونے کے غلطی کا صدور ہوا ہے۔ اسی وجہ سے علمائے خبر و احمد پر عمل کرنے کے لئے بہت سے اصول مقرر کئے ہیں کہ ان پر روایت کو پرکھ لیا جائے، اگر قرارد کے مراقب ہو تو عمل کیا جائے در نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی واقعہ سے علماء حنفیہ رضی اللہ عنہم کے اس اصول کی تائید ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں جو مضمون قرآنی کے مراقب ہو اگرچہ دوسری طرف کے روایت کرنے والے ان کی بہ نسبت زیادہ ثقہ یا تعداد میں زیادہ ہوں اور یہ سب داقعات بھی اسی امر کی تائید کرتے ہیں جس کو ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنا اسی شخص کا کام ہے جو غلطی کو پہچان کے۔ حیرت ہے کہ مرضی کے خریدار پر کھنے کے لئے صراف کے محتاج ہیں، لیکن عمل بالحدیث کے لئے کسی جانچے پر کھنے والے کی ضرورت نہیں بھیجتی۔ اس میں بلا کسی واقفیت کے اپنی شناس پر پوچھنہ ہے۔

دور شانی میں اختلاف روایات کی چو تھی وجہ

یہ بھی پتیں آئی کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جاں
نشار اور راقعی عشاں تھے جو حضور کی ہر ادا پر سودل سے قربان ہونے والے تھے
جو صحیح طور پر اس شعر کے مصداق تھے۔
دیتا جو کردگار مجھے بے شمار دل
کرتا میں ہر ادا پر سوسو نشاد دل

صحابہ کے تعلق کی امثلہ بھی حد بیان سے باہر ہیں ان میں کا ہر ہر داعم چھوٹی
سے چھوٹی مثال ہے ایک ادنیٰ سادا قعہ حضرت انس لعل کرتے ہیں کہ حضور کا
ایک صحابی کے مکان پر گذر ہوا رجہوں نے ایک کمرہ تعمیر کرالیا تھا۔ حضور نے
دریافت فرمایا کہ یہ کس کا ہے اور معلوم ہونے پر زبان سے کچھ بھی ارشاد نہیں
فرما یا لیکن جب وہ صاحب مکان حاضر خدمت ہوئے تو سلام کا جواب نہیں
دیا مکر سے کہ رہائھوں نے لوگوں سے پچھا اور مکان کی طرف گزر فرمانے کا حال
ٹکر فوراً جا کر اس کمرے کو منہدم کر دیا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ حاضر ہو کر
اطلاع کر دی ہو۔ شرم و ندامت کی وجہ سے خبر بھی نہیں کی، آتفاً دوبارہ بھی
خود یہ حضور کا ادھر گدر ہوا تو معلوم ہوا۔ غرض وہ کبھی کبھی محبوب کی زبان سے
نکلے ہوئے الفاظ کے ظاہر پر عمل فرماتے تھے ممکن ہے کہ بعض حضرات مطلب
ہی وہ سمجھتے ہوں جس پر وہ عمل فرمائے تھے لیکن یہ بھی بعد نہیں۔ بلکہ بعض
الفاظ سے یہ بات مُپکتی ہے کہ وہ خود بھی بعض اوقات سمجھتے تھے کہ حقیقی طلب
یہ نہیں، مگر جو نکلے ظاہر لمعظی یہ ہے اس نئے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔
حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجنبوئی کے ایک دروازہ کی طرف اشارہ کر کے

یہ قریباً کہ ہم اس دروازہ کو عورتوں کے لئے مخصوص کر دیتے تو اچھا تھا حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اس دروازہ سے کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ ابو سعید خدریؓ کا جب انتقال ہونے لگا تو نئے کپڑے منگا کر زیب تن فرمائے۔ اور یہ کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ آدمی جن کپڑوں میں مرتا ہے انہی کپڑوں میں حشر میں اٹھایا جائے گا۔

قرآن شریف کی آیت کہا بداعنا اذل خلق نعیدہ کی تفسیر میں روایات مشورہ سے ثابت ہے کہ حشر میں سب نئے اٹھائے جائیں گے۔ متعدد روایات سے یہ معلوم ثابت ہے اور مستبعد ہے کہ ابو سعید خدریؓ کو حدیث کام مطلب معلوم نہ ہو مگر اس کے باوجود یہی انہوں نے صرف ظاہری لفظ پر عمل فرمائکر نئے کپڑے زیب تن فرمائے۔

اس نوع کی امثلہ بھی حدیث میں بحیرت میں گی گوئے نوع بظاہر متبعہ معلوم ہوتی ہے لیکن جن کو محبت کے گھاٹ سے کوئی گھونٹ ملا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبوبؐ کے الفاظ بلا لحاظ مقصد دغرض کس قدر اہم ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم منسون روایا کو بھی نقل کرتے ہیں حالانکہ جب کوئی حکم منسون ہو جپکا اس کی تبلیغ کی اب ضرورت نہیں رہی اسی طرح ایسی بحیرت احادیث روایت کی جاتی ہیں جو اجماً متردک الظاہر ہیں۔

اسی لئے محمد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے علم حدیث کے تو عمل کے لئے اس کی بصیرت اور اس میں زبان دلکشم ہلانے کے لئے بڑے سخت قواعد مرتب فریضے ہیں، طالب حدیث کے لئے بھی قواعد و شرائط مقرر فرماتے ہیں محدث و معلم کے لئے اس سے زیادہ اونچی اور سخت حدود معین فرمائی ہیں اگرچہ مضمون بے ارادہ طویل ہو تا جاہار ہا ہے لیکن وہی ضرورت سے امام بخاریؓ کی ایک بحیثیت حکایت اس جگہ نقل کرتا ہو جس سے یہ اندازہ ہو گا کہ علم حدیث کے حوالہ کرنے کے لئے اور

اس کا طالب علم بننے کے لئے بھی سلف صالحین نے کس قدر جان کا ہی کو ضروری ترار دیا ہے جو جائیکہ محدثیت اور شیعیت -

محمد بن احمد کہتے ہیں کہ جب دلیہ	قال السیوطی بستہ
بن ابراہیم مقام رتی کی قضاۓ	الی الی المظفر محمد بن
معذول ہو کر بخارا پہنچے تو میرے	حامد البخاری قال لما
استاد ابو ابراہیم تسلی مجھے ساتھ	عنل ابو العباس الولید
لے کر ان کی خدمت میں حاضر	بن ابراہیم بن فہید
ہوئے اور ان سے درخواست	الهمدانی عن قضاۃ الری
کی کہ آپ نے جو روایات حضرت	ورد بخاری فحملہ
ہمارے مشائخ اور اساتذہ سے	محلی ابو ابراہیم
نہیں ہیں۔ اس کو ردایت کر دیجئے۔	الختلی الیہ و قال للسائل
انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہماری	و ان تحدیت هذالصی عما
کی روایات نہیں سنیں میرے	سمعت من مشائخنا فقال
استاد نے تجھے پوچھا کہ آپ	مالی سماع قال فحیف
انتے بڑے نقیب تاجر ہو کر الی	و انت فقیہ قال لا في لما
بات فرماتے ہیں انہوں نے	بلغت مبلغ الرجال
اپنا ہفتہ سنا یا کہ جب میں عاقل	تاقد نفسی اے طلب
یا لغہ ہو گیا اور مجھے علم حدیث	الحدیث فقصدت محمد
کا شوق ہوا تو میں امام بخاری	بن اسحاق البخاری۔
کی خدمت میں حاضر ہوا اور	واعلمہ مرادی
اپنی غرض ظاہر کی انہوں نے	نقال یا بنی لا
ناصحاتہ ارشاد فرمایا کہ میا جب	ندی فی امر

کسی کام کا ارادہ کرو تو اس سے
پہلے اس کے متعلق اس کے
واز مات، حالات دریافت
کر لینا چاہئیں۔ اس کی حدود
معلوم کرنے کے بعد اس کا ارادہ
کرنا چاہئے۔

اب ستو! کہ آدمی محدث
کامل اس وقت نہیں ہو سکتا
کہ چار چیزوں کو چار چیزوں کے
ساتھ ایسے لکھے جیے کہ چار چیزوں چار چیزوں
کیا تھیں! چار چیزوں کے چار زانوں میں چار
حالات کیا تھیں! چار عقایتیں میں چار
چیزوں پر چار نوع کے اشخاص
سے چار اغراض کئے۔

اور یہ سب چوکڑے پورے نہیں
ہو سکتے مگر چار چیزوں کے
ساتھ جو دوسرے چار کے ساتھ
ہوں اور جب یہ سب پڑے
ہو جاویں تو اس پر چار چیزوں
سہیں ہو جاتی ہیں، اور چار صاحب
کے ساتھ متبلما ہوتا ہے۔ اور جب
ان پر بھی صبر کر لے تو حق تعالیٰ شاد

الا بعد معرفۃ حدود و
والوقوف علی مرادہ
واعلم انِ الرجُل
لا يصیر محدثاً كاماً لَا
في حديثه الا بعد
ان يكتب امر بعـاـ
مع اربع کامیع مثل
اسیع فی اسیع عند
اسیع باسیع علی
اسیع عن اربع
للسیع۔

وکل هذه الرباعيات
کاتم الا باربع
مع اربع فاذامت
له کلاما هات
علیه اربع وابتلى
باسیع فاذآ صبر
علی ذالک اکرمہ
الله فـ الدنیا
باسیع داشابه
فی الاخـدہ باسیع
قلت له فـ سـر لـ

چار چیزوں کے ساتھ دنیا میں
اکرم فرماتے ہیں۔
اور چار چیزوں آخرت میں نصیب
فرماتے ہیں۔
میں نے عرض کیا اسرا پر حج
فرمائیں۔ ان چوکڑوں کی تغیرت
فرمادیجئے، انہوں نے فرمایاں
ستو! وہ چار جن کے لکھنے
کی ضرورت پڑتی ہے وہ حضرت
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ
احادیث اور احکامات اور صحابہ
کے ارشادات اور ان صحابکے
مراتب کہ کون شخص کس درجہ کا
ہے اور تالیعین کے ارشادات اور
ان کے حالات کہ کون شخص مجرم
ہے اور کون غیر مجرم اور حبلہ عطا
روات کے حالات اور ان کی
تواریخ مع ان چار چیزوں کے
کہ ان کے اسما رجال لکھنے ان
کی کنیتیں ان کے رہنے کے
مقامات اور ان کے پیدائش
وقایت کے زمانے (جس سے

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا
ذَكَرْتَ مِنْ أحوال
هَذِهِ الرِّبَاعِيَّاتِ
تَالْنَعْمَةُ إِمَّا
الْأَسْبَعَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ
إِلَى كِتَابِهَا هُنَّ
أَخْبَارُ الرَّسُولِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَشَرِائِعُهُ
وَالصَّحَابَةُ وَمَقَادِيرُهُمْ
وَالْمَتَابِعُونَ
أَحْوَالُهُمْ وَسَائرُ
الْعُلَمَاءُ وَتَوَارِيخُهُمْ
مَعَ اسْمَاءِ مَجَالِهَا
وَكَتَابَهُمْ
وَأَمْكَانَهُمْ وَآزْمَانَهُمْ
كَالْتَّحْمِيدُ مَعَ
الْخَطِيبِ مَعَ الرَّسُولِ
وَالْبِسْمَةُ مَعَ
السُّورَةِ وَالْتَّكْبِيرُ
مَعَ الْمُصَلَّةِ
مِثْلُ الْمُسَنَّدَاتِ

یہ اندازہ ہو سکے کہ جن لوگوں سے
روایت کر رہا ہے ان سے ملا تھا
بھی ہوئی ہے یا نہیں) یہ ایسی
لازمی ہیں جیسے خطبہ کے ساتھ
حمد و شکر اور رسول کے ساتھ دعا
یعنی ان پر صلوٰۃ وسلام اور سورۃ
کے ساتھ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے
ساتھ تکبیر (اور مثل چار چیزوں
کے) جیسے مندات، مرسلات،
موقفات۔ مقطوعات ملکہ یہ
علم حدیث کی چار اقسام کے
ہم ہیں (چار زمانوں میں) پھیپنے
میں، قریب السیوع زمانہ میں
بانج ہونے کے بعد اور پڑھانے
سے پہلے تک (حاصل کرتا ہے)
اور چار حالات کا مطلب یہ ہے
کہ مشغولی کے وقت فراغت کے
وقت، تنگی میں ہمدرتو نگری
میں۔

غرض ہر حال میں اسی کی طرف
لگا سبے اور اسی کی دھن ہو (چار
مقامات میں) یعنی پہاڑوں پر،

والمرسلات
والموقفات
والمقطوعات
فَ صَغِيرٌ
وَ فِي ادْرَاكِهِ
وَ فِي شَيَابِهِ
وَ فِي كَهْوَلَتِهِ
عِنْدَ شَغْلِهِ وَعِنْدَ
فَرَاغِهِ وَعِنْدَ
فَقْرَهِ وَعِنْدَ
غَنَاهِ بِالْجِبَالِ
وَ الْبَحَارِ وَالْبَلْدَانِ
وَ لِبَرَارِي
عَلَى الْأَحْجَارِ
وَ لَا صَدَافٌ
وَ الْجَلْوُدُ وَ الْأَكَافُ
الْحُوقَّتُ
الَّذِي يَمْكُنُهُ
نَتْدِهَا الْحُوقَّتُ
الْأَوْرَاقُ
عَمَنْ هُوَ
فَوْقَهُ وَعَمَنْ هُوَ

دریاؤں میں، شہروں میں،
جنگلوں میں، غرض جہاں جہاں
کوئی معلم حدیث معلوم ہو سکے
اس سے حاصل کر لے (چار
چیزوں پر) یعنی پتھروں پر،
سیپوں پر، چھپرے پر، ٹہیوں پر،
غرض اس وقت تک کہ کاغذ ملے
اور اس پر لکھنے اور نقل کرنے
کی قوبت آئے جو چیز ملے اس
پر لکھ دئے تاکہ صنفون ذہن سے
نہ نکل جاوے۔

اور جن چار حاصل کر کے وہ اپنے
سے ٹبے اور چھوٹے اور برابر کے
اور اپنے باپ کی کتب سے شرطیہ
اس کا خط پہنچاتا ہو (غرض جس
طرح بھی معلوم ہو سکے کوتاہی نہ
کرے نہ اپنے سے برابر کے یا
چھوٹے سے حاصل کرنے میں عار
کرے)۔

چار چیزوں کی نیت سے سب سے
مقدم حق سعادت و لقدس کی رضا
کے واسطے کر افکر رضا کا طالب

مثله و عنہ هو خوقة و عنہ هو شلة
و عنہ هو دونہ و عن کتاب
ابیه بتیقنت انه
یخط ابیه ددت
غیرہ لوجه اللہ تعالیٰ
طالبًاً لمرضاته
والعمل بما وافق
کتاب اللہ تعالیٰ
منها و نشرها
بین طالبیها والتألیف
فی احیاء ذکرہ
بعدہ شم لاتستمد
لہ هنہ الا شیاء
الاباریع هی من
کسب العبد
معرقۃ الكتابة
و اللغو و الصرف واللغو
مع اربیع هن
من اعطام
الله تعالیٰ الصحبۃ
و القدرة والحسن
والحفظ فاذاصحت

ربنا غلام کا فرض ہے، دریسے
جو مصنایں کتاب اللہ کے موافق
ہوں اپر عمل تیرے طالبین و
شالقین تک پہنچا اپنے تھے قصیف
دستالیف کہ بعد میں آئے والوں کیلئے
شمع پدا یت باتی رہے اور یہ سب
ذکورہ بالا حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ
چار جیزوں کے ساتھ جو بندہ کی جی
ہیں کہ آدمی اپنی محنت سے شست
سے ان کو حاصل کر سکتا ہے وہ
علم کتابت ہے۔ اور علم لغت
لرجس سے الفاظ کے مطالب
معلوم ہو سکیں اور صرف دخواجہ
جن سے الفاظ کی صحت معلوم ہو گئے۔
اور یہ سب ایسی چار جیزوں پر
موقوف ہیں جو حنّ تعالیٰ شانہ کی
عطائے محنتہ میں بندہ کے کسب
پر موقوف نہیں وہ صحت قدرت
حرص علی القلم اور حافظ۔ اور
جب یہ سب حاصل ہو جاؤں تو
اس کی نگاہ میں چار جیزوں خیر
سو جاتی ہیں اہل اولاد مال اور

له هذه الاشياء
هان عليه اربع
الاهل والولد و
المال والوطن وايتلي
يامريم شماتة الاعداء
وملامة الا صدقاع
و طعن الجهماء
و حسد العلماء
فاذ صبر على
هذه المحن اكرمه
الله تعالى فـ
المدينه يامريم
بعز القناعة بهميه
اليقين وبلده العلم
و حياة الا بد و
اثابه في الآخرة
يامريم بالشفاعة
لمن اراد من
اخواته وبظل
العرش حيت
لانظل الا ظلمه ولسيقى
من اراد من

وطن، اور پھر چار صابریں بتلا
ہو جاتا ہے دشمنوں کی شماستہ درتوں
کی ملامت جاہلوں کے لفظ اور
علماء کا حسد اور جب آدمی ان سب
پر صبر کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ
چار چیزوں دنیا میں نصیب فرماتے
ہیں، اور چار آخرت میں دینا
کی چار حسیں ذیل ہیں اول شفاعت
کے ساتھ عزت، دوسرے کمال
یقین کے ساتھ وقار و ہدایت،
ادر تیرے لذت علم اور سچے تھجے
وائی زندگی۔ اور آخرت کی چار
یہ ہیں اول شفاعت جس کی دل چاہے
دوسرے عرش کا سایہ اس روز جس
دن کہ اس کے سوا کوئی سایہ ہی
نہیں ہو گا۔ تیرے حوض کوثر سے
جس کو دل چاہے پانی پلانے۔
چکتھے انبیاء کا قربِ اعلیٰ علیمین۔
پس بیٹا! میں نے جو کچھ لپٹے مٹا
سے متفرق طور پر تھا جملہ سب بتا
دیا ہے، اب تکھے اختیار ہے کہ حدیث
کا مشغلاً اختیار کر یا نہ کر فقط۔

حوض محمد صلی
الله علیہ وسلم
وبحوالہ النبیین
فی اعلیٰ علیمین
فی الجنة فقد
اعلمتے یا بخ
بحملات جمیع ما
کنت سمعت
من مشائخ متفرقًا
فی هذا الباب
فاقبل الان علی
ماقصد تخف له
او دعه۔

یہ اصول و قواعد میں جو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے ہر اس شخص کے داسطے جمع فٹے ہیں جو محدث اور عالم حدیث بننے کا ارادہ رکھتا ہو، ہم لوگوں کو حقیقتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت سے سبق لینا چاہتے ہیں اور دانشوں سے اس کو پکڑ لے چاہئے۔ حقیقتہ یہ ہے کہ علم حدیث اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور اس تکامل کے زمان میں جبکہ نتھیاے علم کی آخری سیر ہمی صحاح ستہ کی چند کتابیں ہوں لپنے کو محدث سمجھ لینا یا اپنے کو علم حدیث کا فاضل حجوبیر کر لینا اس بندروں کی مثال کے پہت ہی شاید ہے جو ایک بُلدی کی گرد سے اپنے کو پساری کہلانے کا شائُن ہو۔ حقیقتاً اس جمل کے زمان میں علم دین کی جس قدر سُٹی خراب ہم نیم مولویوں کی جماعت سے ہو رہی ہے اس کی مثال شاید چرانع لے کر ڈھونڈنے سے بھی سابقہ قردن میں نہ مل سکے گی۔ جس کی واحد وجہ اپنی قصیلت پر اعتماد اپنی معلومات ناقصہ پر وقوق حالانکہ متاخرین نقہتے اپنی رائے سے فتویٰ دینے کی بھی اس زمان میں اجازت نہیں دی ملکہ اس کے مثل سابقہ فتاویٰ میں سے حکم نقل کر دینے کی اجازت دی ہے، مگر اس دونوں سلسلہ مسائل تو درکن رُبڑی سے بڑی علمی تحقیق لپنے وجد ان اپنی سمجھ کی رہیں منت بن گئی۔ فالی اللہ المشتکی وهو المستعان۔ بالجملہ یہ مضمون اپنے وجود ضروری ہونے کے محض سے خارج ہے اس لئے اس کو ترک کر کے اپنے مضمون سابق کی طرف عود کرتا ہوں کہ دور ثانی میں اختلاف روایات کی وجہ کثیرہ میں سے مثال کے طور پر چلو وجوہ پرتفاعت کر کے آگے چلتا ہوں کہ اس کے بعد صحابہ تابعین اور تبع تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ محدثین غرض جس قدر مشکوٰۃ نبوة سے بعد ہو گیا دجوہ اختلاف بڑھتے گئے اور بڑھنا بدیکی ہے کہ جتنے منہ اتنی ہی بائیں یہ وجہ حقیقتہ بہت سی انواع اور وجہ کوشال ہے لیکن تطول کے خال سے ان سب کو ایک دھمکی شامل کر کے پانچوں وجہ اس دور کی قدر اور دنیا ہوں کہ مضمون زیادہ طول نہ پکڑے۔

(خصر اپاچویں دھج) کثرت و سائط ہے کہ احادیث کی روایات میں جس قدر
واسطے بُستے گئے سابقہ سب وجہ کی بنابر اتسا ہی اختلاف پیدا ہوتا گیا یہ وجہ
بیہی ہے ہر شخص کو پیش آئی ہے ہر شخص بھٹکا ہے کہ کسی قاصد کے ہاتھ آپ ایک بات
کہلا کر صحیح ہیں لیکن اگر درمیان میں چند واسطے ہو جادیں گے تو اس میں اختلاف لازمی
اور بیہی ہے ایسی وجہ ہے کہ ائمہ حدیثتے روایات کی وجہ ترجیح میں علو سند
یعنی داسطون کے کم ہونے کو ایک بڑی وجہ قرار دی ہے جس کو حق تعالیٰ شانہ کو اگر
منتظر ہے تو اپنے موقع پر تفصیل سے میں پیش کر دوں گا۔ یہاں پر اجمالاً اتنا مبنی کہ
ضروری ہے کہ عقلاً نقلًا تجربۃ مشاہدۃ کثرت و سائط اختلاف کا سبب ہو کرتا
ہے اور یہی اختلاف روایات کی بڑی اور سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ حقیقی کے
نزدیک امام صاحب رضی اللہ عنہ کے فقہ کو دوسرے ائمہ فقہاء اور تمام محدثین کے
کے اقوال در روایات پر ترجیح ہونے کی سمجھا اور وجہ کثیرہ کے جو اپنے موقع پر واضح
ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اجمالاً امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لور حضرور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں واسطے بہت کم ہیں تو وضع کے لئے اجمالی طور
پر مشاہیر ائمہ کی تاریخ ولادت و ممات و موقوفات پیش کرتا ہوں۔

۱۱) ابوحنیفہ	"	ولادت ۷۸۰ھ	وفات ۱۵۰ھ	کل عمر ۷۰
۱۲) مالک بن	"	۹۵ھ	۱۶۹ھ	۷۴
۱۳) امام شافعی	"	۱۵۱ھ	۲۰۳ھ	۵۲
۱۴) الحدیث خبیث	"	۱۴۲ھ	۲۲۱ھ	۷۷
۱۵) بخاری	"	۱۹۲ھ	۲۵۴ھ	۶۲
۱۶) مسلم	"	۲۳۰ھ	۲۷۱ھ	۴۱
۱۷) البوداود	"	۲۰۲ھ	۲۶۵ھ	۶۳
۱۸) ترمذی	"	۲۰۹ھ	۲۴۹ھ	۴۰

امام نافیٰ ۸۹ دلادت ۲۱۲ھ دفات ۲۳۴ھ کلہر
 امام ابن ماجہ ۶۲۹ھ ۲۶۳ھ " " ۲۶۳ھ
 اس تو ضیح کے بعد یہ امر بہت ہی واضح ہو جاتا ہے کہ امام بخاری امام مسلم
 رضی اللہ عنہما تک روایت کے آنے میں جب کہ حضورؐ کے زمانہ کو تقریباً دو سو برس
 گزر چکے ہیں بہت سے وسائل کا اضافہ ہو جاوے گا بخلاف امام ابوحنیفہ امام
 مالکؓ کے زمانہ کے کہ دنیا سورس بھی فصل نہیں۔ بالجملہ کثرت وسائل روایات
 کے اختلاف کا سبب ہوا کرتی ہے اور تدوین کتب حدیث چونکہ دوسری صدی میں
 بالعموم شروع ہوئی اس نے اس وقت نقل کرنے والوں کی کثرت وسائل کی وجہ
 سے روایات کے الفاظ میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا۔

(اختلاف روایات کی چھٹی وجہ ضعف روایات ہے کہ انہی کثرت وسائل میں
 بعض راوی ضعیف غیر معتر بھی اگئے کہ بعض لوگ حافظہ کی خرابی یا کسی عارضہ کی وجہ
 سے کچھ سے کچھ نقل کرتے تھے انہیں میں بعض روایات ایسے بھی تھے جن کو اینے حافظ
 یا کتب پر اعتماد نہ کیا ان میں کسی حادثہ کی وجہ سے کوئی ایسا عارضہ پیش آگیا جس
 کی وجہ سے روایات میں گلطی ہونے لگی غلط روایات نقل کی جانے کیسی اسی وجہ
 سے ائمہ حدیث نے حدیث پر عمل کرنے کے لئے نہایت ہی ضروری قرار دیا ہے
 کہ وہ ہر راوی کے حالات سے واقع ہو اور اس میں بصیرت رکھتا ہو۔ اور یہی وجہ
 ہے مشائخ حدیث نے عامی شخص کو حدیث پر عمل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔
 شرح اربعین فودیہ میں ہے۔

من اراد ال حتیاج یحیث	جو شخص کتب سنن میں لئی حدیث سے
من السنن کلبی داد د	استدلال کا ارادہ کرے جیسے
والترمذی والنمسائی	ابوداؤ و ترمذی، نسائی وغیرہ
وابن ماجہ	باخصوص ابن ماجہ مصنف ابن

و مصنف ابن الحشيشة
و عبد الرحمن و نعوها
ممات كثرة الفتن
و غيره او بحديث من
السانيد فان تا هل
لغير العاصم من غيره
امتنع ان يحيى الحديث
من ذلك حتى ينظر
في الصال سند حال
رواته و ان لم يتأهل
له فان وجد اماماً
قلده والا لم يحيى
لما لا حاجاً به لسلا
دعع في الباطل -

ابي شيبة، مصنف عبد الرزاق
ادران حسني كتب جن میں ضعاف
رواپسین بکثرت ہوں۔ وہ اس
کا اہل ہے کہ حدیث صحیح کفر صحیح
سے متاز کرے تو بھی اسکے
لئے تاجائز ہے کہ اس حدیث
کو جنت بالیوے تاویل کیا اس
کے اتصال کی تحقیق نہ کر لے اور
رواہ کا حال منزع نہ کرے اور اگر
اس کا اہل ہی نہیں تو اگر کوئی
امام ہو تو اس کی تقدید ضروری ہے
ورنہ اس کے لئے احتجاج جائز
نہیں۔ مبادی کی امر باطل میں
نہ پڑ جائے۔

اس مضمون کو ہم اپنے موقع پر اشارہ اللہ و صاحبت سے دکھلادیں گے کہ
جیہو رفقہا اور جمہو محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ جس شخص کو روایات کی صحت و
ضدھن بیہقی نے کا سلیقہ نہ ہو نامخ و منورخ کو متذکر سکتا ہو عمومی احکام فحصی
ارشادات سے جدا نہ کر سکتا ہو اس کو عمل بالحدیث جائز نہیں اور حقیقتہ یا امر کسی
کی تصریح کا محتاج بھی نہیں اس قدر یہی بات ہے کہ جو شخص صحیح کو عقیم سے
 جدا کرنے پر قادر ہی نہیں وہ اس پر عمل کس طرح کر سکتا ہے۔

(ساقی و حبیب) اس دور کی یہ سے کہ خیر القرون کے بعد حسب ارشاد آقا نے
دو جہاں علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ بـ کاظمہ رہوا لوگوں نے عمدًا مجموع بولت

شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے مسلمان محدثین نے موضوعات کی کتب تالیف فرمائیں۔ ان جھوٹے لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے انزادی کی وجہ سے حدیث گھر دیتے تھے۔ ایسی حالت میں جس قدر بھی اختلاف روایات میں واقع ہو کم ہے۔ ابن نسیع ایک شخص کا تفصیل نقلم کرتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ میں خواجہ کاشیخ تھا۔ پھر اس کو تو یہ کی توفیق نصیب ہوئی تو اس وقت اس نے یہ نصیحت کی کہ حدیث حاصل کرنے کے وقت اس کے رواۃ کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہم لوگ جب کسی بات کو پہلا ناچاہتے تھے اس کو حدیث بنالیا کرتے تھے۔ حماد بن سلمہ ایک رافضی کا مقولہ نقلم فرماتے ہیں کہم اپنی مجالس میں جب کسی امر کو تجویز کرتے تھے تو اس کو حدیث بنالیا کرتے تھے۔ مسیح بن جہنم ایک بدعتی کا مقولہ نقلم کرتے ہیں کہ جب وہ تائب ہوا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے بہت سی باطل روایات تمہرے نقلم کی ہیں اور تمہارے گراہ کرنے کو ہم ثواب سمجھتے تھے دغیرہ دغیرہ۔ حفاظ حدیث نے ان مقولوں کو اپنی اپنی جگہ ذکر فرمایا ہے بالخصوص حافظتے لسان کے شروع میں۔ میری غرض ان کے ذکر سے اس کا ثبوت تھا کہ خود گھر نے ولے اقرار کرتے تھے۔ کہ ہم نے جھوٹی روایات گھری ہیں اور یہ نوع حقیقت میں بہت سی اقسام کو شامل ہے بعض لوگ تو اپنے ان انزادی کے لئے گھر تے تھے جن کو وہ دین سمجھتے تھے جیسے روافض خواجہ دغیرہ دغیرہ جن کے متولے پہلے گذرے اس وجہ سے محدثین نے ان قواعد میں جو حدیث پر عمل کرنے کے لئے مقرر فرمائے ہیں ان میں منجملہ اور تراویط کے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جس شخص کے رفق کا حال اسما رجیال سے معلوم ہو فضائل اہل بیت میں اس کی رحمائیت معتبر نہیں۔

حمد بن زید کہتے ہیں کہ زنادقر نے چودہ ہزار احادیث گھری ہیں جن میں سے ایک شخص عبد الکریم بن ابی العوجا ہے جس کو مہدی کے زمانہ میں سویں پر چڑھایا گیا۔ وہ سویں پر چڑھایا جا رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ میں نے چار ہزار حدیث میں گھری

اگر جن میں حلال اشیاء کو حرام بنایا اور حرام کو حلال بنایا۔ اور بعض لوگ محن کی میر بادشاہ کے خوش کرنے کے لئے حدیث گھرداتے تھے جن کے قصے موصوعات میں بالتفصیل درج ہیں اور ان اقسام میں جن پر ائمہ حدیث نے زیادہ کلام کیا ہے صوفیہ اور داعظین کی روایات ہیں کہ صوفیہ کو ان کے حُسن طن کی بنا پر برخض کے قبول پر اعتماد ہو جاتا ہے اور اس بنابرودہ اس کو سچا سمجھ کر دوسرے سے نقل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے اعتماد پر اور دوسرے سے نقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنے صحیح کے شروع میں اس پر کلام فرمایا ہے اس طرح داعظین کی روایات کو دوسرے باوقایات صحیح پر رنگ جانتے کے دل سطے غلط روایات نقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کا تو نہ سبب ہی ہے کہ امور آخرت میں رغبت دلانے کے لئے یا خوف پیدا کر دینے کے خیال سے حدیث کا گھر ناجائز ہے۔

داعظین کی روایات بالخصوص کتب موصوعہ میں بکثرت پائی جاتی ہیں امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہما ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے نماز کے بعد ایک داعظ نے دعڑ شروع کیا اور انہی دو نوں حضرات کے داسطہ سے حدیث نقل کرنی شروع کی جب وہ دعڑ ختم کر جا تو امام یحییٰ بن معین نے ما تحر کے اشارہ سے بلا ایادہ سمجھ کر کہ یہ کچھ دینے کے لئے اشارہ کر رہے ہیں قریب آیا۔ انہوں نے پوچھا یہ حدیث کس نے بیان کی اس نے پھر انہی دو نوں حضرات کا نام لیا۔ وہ سرقوف ان کو جانا بھی نہ تھا۔ لیکن چونکہ دنیا نے حدیث میں ان دو نوں حضرات کی شہرت تھی اس لئے ان کا نام لے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل۔ ہم نے تو جو کو یہ حدیث نہیں ستائی اور نہ کبھی خود سنی۔ اس نے کہا کہ یحییٰ بن معین تم ہی اور انہوں نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کہ میں ہلیش سے سنا تھا کہ یحییٰ بن معین بے دقوف ہیں۔ مگر آج تحریر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تحریر کس طرح ہوا۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ دیا کہ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل تم ہی دو ہو۔

میں نے سرگرمی بھی بن حینہ احمد بن حنبل سے حدیثیں لئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے ربع کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیا۔ اور وہ مزاق سار کرنا ہوا چلا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں دعظام پر تشدید فرما رکھی تھی۔ ابو قاسم نے کتاب الحلیہ میں زہری سے نقل کیا ہے کہ حدیث ایک شخص دونوں خصوصیوں اور تین چار شخصوں تک روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جب حلقة و سیح ہو جائے تو چپ ہو جا۔

خیاب بن ارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ خواسرائل کی جب ہلاکت شروع ہوئی تو دعظام کوئی شروع کر دی۔ زین عراق کہتے ہیں کہ دعویوں کی آفات میں سے یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی بات عوام کے سامنے نقل کرتے ہیں جہاں تک ان کے ذہن نہیں پہنچتے جس سے اعتقاد فاسد ہوتے تھے۔ جب یہ سچی اور صحیح بالوں کا حال ہے تو غلط اور من گھرٹت بالوں کا تو کہنا ہی کیا۔ انہی وجہ سے علماء حدیث کو موجود روایات میں بھی کتابیں تصنیف فرمائی چڑیں۔ اور ان حضرات نے اسی تحقیق و تصحیح کے ساتھ موجود روایات کو یاد فرمایا۔ اور تحریر فرمایا۔ جس طرح سچی پہنچی روایات کو تاکہ بعد کے آنے والوں کو اشتباہ نہ پڑ جائے۔

(آنٹھویں وجہ) جو گذشتہ کے قریب ہی سے یہ بھی پیش آئی کہ روایت کرنے والے خود تو مجرم ہو چکے آدمی لیکن ان کی کتابوں میں کسی معاندید باطن نے کچھ تصرف کر دیا۔ جس کی وجہ سے روایات میں اختلاف پیدا ہوا۔ یہ روایت کرنے والے خود معتر اس لئے ان کی روایات کو رد بھی نہیں کیا گیا اور اس مکر کی وجہ سے اصل روایت میں گڑا بڑی ہو گئی۔ چنانچہ اہل اصول نے تصریح کی ہے کہ حماد بن سلمۃ کی کتابوں میں ان کے ربیب ابن الی الموجام نے تصرف کیا ہے۔ اور عمر کی کتابوں میں ان کے ایک بھتیجے نے جو راصی ہو گیا تھا۔ ایک حدیث داخل کر دی یہ وجہ اور اس نوع کی اور بھی بہت سی وجہ ہیں جو عوام کے سامنے تفصیل کے قابل نہیں۔

اس لئے کہ ان کے افہام اس سے قاصر ہیں وہ ان دعویات سے اپنی قلت فہم اور
قصور علم کی وجہ سے مطلقاً حدیث شریف کی کتب اور روایات سے ایک بد نظری
کامنون اخذ کر لیں گے۔ اس لئے میں اس کو ختیر کرتا ہوں۔ درحقیقت نہ پڑھائیں
انے عام ہیں کہ ہر شخص کے سامنے رکھے جاویں اور نہ ہر نوع کا آدمی ان کی فہم کا ہے۔
اسی وجہ سے مشائخ نے عوام کے سامنے خاص مسائل کے تذکروں کو بھی روکلے
اور ان دجوہ سے قدملئے حدیث شریف پڑھنے کے لئے اس سے قبل اس قدر علوم
مزدوری فراز دیتے تھے جن سے اس کی استعداد حاصل ہو جاوے بالخصوص اصول فقہ
اور اصول حدیث تاکہ بات سمجھنے اور پڑھنے کی قابلیت ہو جاوے۔ زین عراقی کا مตولہ
میں ابھی تھل کر چکا ہوں۔ کہ داعیین کی آفات میں سے ہے کہ عوام کے سامنے ایسے ہمچنان
کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کی عقول کی رسائی نہیں بھتی جس کی وجہ سے اعتقاد فائدہ ہوتا
ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو کسی قوم سے الی حدیث
بیان کرے جہاں تک ان کی عقول کی رسائی نہ ہو تو ان کے لئے فتنہ کا سبب ہو گی۔ امام
مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے مقدمہ میں ذکر فرمایا ہے بخلافی
شریف میں امام بخاری نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی اسی قسم کا مตولہ تعلیم فرمائی ہے۔
اگرچہ اب یہ امور خطر تک نہیں رہے اس لئے کہ امر حدیث نے صحیح و ستم روایات کو چھٹا
دیا۔ معتبر اور غیر معتبر کو ممتاز کر دیا۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کو
چھ ۶ لاکھ احادیث سے اور امام مسلم نے تین لاکھ احادیث سے اور امام
ابوداؤد نے پانچ لاکھ احادیث سے اختاب کیا۔ تاہم میں اس دور ثلثی کو اسی جگہ
ختم کرتا ہوں اس لئے کہ معقول اس سارے بیان سے جو ابتداء کامنون سے ہیں
تک بیان کیا گیا اس سے یہ دکھلاتا تھا کہ روایات حدیث میں اختلاف کی وجہ
بہت مختلف پیدا ہوئی ہیں اور وہ علاوہ پیدبھی ہونے کے قرین قیاس اور موجود
ہیں اور ان وجہ کثیرہ میں سے اظہارہ وجہ اس دور اذل پر اور آنکھ اس دور میں

ذکر کرچکا ہوں۔ اس کے ملاوہ جس قدر وسائلِ کششت بھلی گئی اتنا ہی اختلافِ ضعف روایات میں پڑھتا گیا اسی وجہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں ضعفِ علایا بہت ہی کم ہیں۔ بلکہ گویا بالکل ہی ہیں اس لئے کہ ان کا زمانہ دوسری صدی کے آخر پر ہے اور درقطنی کی کتاب میں بہت ہی زیادہ ضعفِ روایات اگئیں اس لئے کہ ان کا زمانہ ان سے بہت زیادہ مُؤخر ہے اور اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین کا دور حجۃ کا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مقدم ہے اس لئے کہ ائمہ ارجعیہ میں سے سب سے آخر زمانہ امام احمد بن حنبل کا ہے اور وہ بھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدم ہیں اس لئے ان حضرات کے دور تک روایات میں اس قدر ضعف نہیں آیا تھا نہ انکا اختلاف پیدا ہوا تھا۔ جس قدر کہ بعد میں ہو گیا۔ بالجملہ ان وجہ اخلاف اور ضعفِ روایات کی وجہ سے ائمہ فتنہ و حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم کو ان کی تحقیق و تغییر فرمائے کی ضرورت پیش آئی۔ معتبر روایات کو مقدم فرمایا، غیر معتبر اور کاذب روایات کو ساقط فرمایا۔ پھر معتبر روایات میں راجح اور صحیح ناخ اور منسوخ کو جدا جد کر دیا لیکن یہ سب امور خود ایسے تھے کہ ان کے درمیان میں اختلاف لازمی امر تھا۔ اس لئے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو شخص میرے تزدیک سمجھ رہے وہ سبکے تزدیک معتبر ہو اجور تر زدیک دیا سدا رہے وہ سبکے تزدیک ایسا ہی ہوا اس بتائیں مجتہدین میں بھی اختلاف ہوا اور ہوتا چلتی ہے تھا کہ فطری امر ہے اس لئے اب ہم اجالاً ان وجہ کا ذکر کرتے ہیں۔

میسر اور اختلاف تذہب

اور انہر محدثین کے درمیان اختلاف کی بُڑی وجہ سبق مضمون سے یہ امر تو واضح ہو گیا۔ کہ روایات میں نقل کرنے والے حضرات کی طرف سے کچھ لکھر ف پیش آیا خواہ عمدًا خواہ سہوا کہیں نقل میں غلطی جھلی اور ہیں

فہم میں اس لئے ائمہ حدیث و فقہ کے لئے اس کی ضرورت پڑی کہ ان روایات کو سلطنت رکھ کر ان کے درمیان میں ترجیح دیں۔ اور اپنی تحقیق کے موافق صحیح و معتبر روایات کو راجح قرار دیں۔ اور غیر صحیح کو غیر قابل عمل یہ حقیقت ہے کہ ائمہ مجتہدین کے اقوال شکنہ نبوت ہی می خوازد ہیں بسا اوقات نص الفاظ سے استخراج کیا جاتا ہے۔ اور کہیں کہیں اس علمت سے مسئلہ کا استخراج کیا جاتا ہے جو شارع علیٰ اسلام کے کلام سے مستبطن ہوتی ہے غرض حدیث پر عمل کرنے کے لئے کچھ اصول و قواعد کی احتیاج لابدی ہے جس کی وجہ سے اختلاف احادیث کے درمیان میں ترجیح دی جائے اور ان دجوہ میں ائمہ فہر و حدیث کے درمیان میں اختلاف ہے یہ بحث نہایت طویل بحث ہے اصول فقہ و حدیث کی جملہ کتب حدیث سے قبل اسی کی تحقیق کے لئے پڑھائی جاتی ہیں اجمانی تذکرہ ان دجوہ کا ہے کہ ائمہ حدیث نے دجوہ بالا کی بنا پر حدیث کی تین قسمیں فرمائی ہیں۔ متواتر مشہور خبر داحد متواتر دہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر دور میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان کے مجموعہ کا کسی کذب یا انعطاف پراتفاق ناممکن ہو جیسے بھی مکملہ وغیرہ کے وجود کی خبریں اسی طرح نماز کی کعبۃ روزہ کے اعداد وغیرہ وغیرہ دوسری قسم مشہور ہے وہ بھی اسی کے قریب ہے ہیں ان دونوں قسموں سے بحث نہیں کرنی اس لئے کہ ان کے متعلق ائمہ میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں معمولی اختلاف اس امر میں ہے کہ متواتر کے لئے کتنے عدد روایت کرنے والوں کی ضرورت ہے نیز مشہور متواتر کے حکم میں داخل ہے یا خبر داحد کے یا مستقل تیسرا چیز ہے۔ ہماری بحث اس جگہ صرف خبر داحد سے ہے کہ جس کے روایت کرنے والے حد توارکرنہ پہنچے ہوں اور جملہ روایات حدیث تقریباً اسی نوع میں داخل ہیں یہ نوع اجمالاً دو قسم پر منقسم ہے مقبول و مردود عاقطاً این جو خدا فرماتے ہیں کہ قسم اول یعنی متواتر کے علاوہ کہ وہ تو مقبول ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی اقسام ہیں وہ دو قسموں میں منحصر ہیں مقبول و مردود۔ مقبول وہ ہے جس پر عمل

داجب ہوا در مرد ددوہ ہے جس کا معتبر ہونا غیر معتبر ہونے پر راجح نہ ہو لہذا حبس حدیث میں وجہ متعارض ہوں کہ بعض وجہ اس کے صحیح اور معتبر ہونے کا تفاضل کرنے ہوں۔ اور دوسری بھی اس کے غیر معتبر ہونے کا وہ بھی غیر معتبر ہی میں داخل کی جاوے گی تا وہیکہ اس کے معتبر ہونے کی وجہ راجح ترین جادیں۔ اس کے بعد حافظ فرماتے ہیں کہ مردود غیر داجب العمل ہے ہی مگر مقبول بھی دو قسم پر منقسم ہے۔ داجب العمل غیر داجب العمل اس لئے کہ وہ اگر مقبول ہونے کے باوجود کسی دوسری حدیث کے ساتھ معارض ہو گئی تو پھر دیکھا جاوے گا کہ ان دونوں احادیث میں کوئی صورت جمع کی ہو سکتی ہے یا نہیں اگر ہو سکتی ہے تو فہمہ جیسا کہ ان دونوں کے متعلق علمائے جمع فرمایا ہے، ایک حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہماری اڑکر نہیں لگتی، اور دوسری حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ کوئی بھی سے ایسا بھاگ جیا شیر سے بھاگتا ہے۔ ان دونوں میں نظامہر تعارض ہے اور دونوں صحیح اور معتبر روایات میں علمائے مختلف طریقوں سے دونوں میں جمع فرمایا ہے۔ ہمیں ان اقوال کا بیان کرنا مقصود نہیں۔ ہماری غرض یہ ہے کہ جمع میں اگر صورت ممکن ہے تو وہ مقدم ہوگی۔ اور اگر جمع کی کوئی صورت ان مختلف حدیث میں نہ ہو سکے تو پھر دیکھا جاوے گا کہ تاریخ کے لحاظ سے کوئی تقدم و تاخر تو نہیں اگر محقق ہو گیا تو مؤخر پر عمل کیا جاوے گا۔ اور اگر یہی ممکن نہ ہو تو پھر دیکھا جاوے گا کہ کوئی اور خارجی دجه مخلص وجہہ ترجیح کے لیے ہے جس کی وجہ سے کسی ایک روایت کو راجح کہا جاوے اور اگر یہی نہ پایا جاوے تو پھر یہ دونوں روایتیں بھی باوجود صحیح اور مقبول ہلاتے کے اس تعارض کی وجہ سے انواع مردود میں داخل ہو گی یہاں پر علماء کے درمیان دو محث طویل ہو گئے۔ اول وجہہ در لعنى کن کن وجہ سے حدیث کو ضعیف اور غیر معتبر سمجھا جا سکتا ہے دوسرے وجہہ ترجیح لعنى دو مختلف روایتوں کے درمیان دونوں کے صحیح ہونے کے باوجود کسی ہر طریقے سے ترجیح

دیجاتی ہے اور ان دو کلی بحثوں کے درمیان میں جس قدر جز دی اختلاف علماء کے درمیان میں پر وہ قرین قیاس ہے اسی گذشتہ قاعدة میں نظر کیجئے۔ کہ دو حد شیوں میں جب دو صنون دار دہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر دوی ی علم کے نزدیک وہ دونوں معارض ہوں بلکہ سرے سے ان کا مطلب ہی کسی مجتہد کے پیدا ہو سکتی ہے جو دوسری حدیث کے معارض نہیں۔ اس کے بعد اگر معارضہ مان بھی لیا جاوے تو ضروری نہیں کہ ہر شخص کے نزدیک ان میں جمع کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ کسی کے نزدیک جمع کی کوئی صورت ہو سکتی ہو اور کسی کے نزدیک نہیں۔ اس کے بعد یہ مان کر کہ جمع کی کوئی صورت نہیں۔ اس کی تحقیق میں آر ار کا مختلف ہوتا ہے امر ہے کہ کوئی حدیث ان میں سے مقدم ہے اور کوئی مُؤْخِد یہاں بھی اختلاف لابدی ہے اس لئے کہ بہت نمکن ہے کہ کسی کے پاس ایسے قرآن موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی ایک حدیث کو مُؤْخِر اور ناسخ سمجھتا ہے اور دوسری کو منسوخ لیکن دوسرے کے نزدیک وہ قرآن اس پر دال نہیں۔ اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے کہ تقدم تا خر بھی محقق نہیں تو پھر اس میں بھی اختلاف لابدی ہے کہ کسی کے نزدیک وجہ ترجیح میں الروایات کچھ ایسے امور ہیں جو دوسرے کے نزدیک نہیں جیسا کہ مختصر طور پر ہم اس کو کسی حجہ نقل کریں گے۔ اور یہ سب وجہ اختلاف میں الجہدین کے اسباب ہیں اور یہ سب فطری اور بدینامی امور ہیں ایک نقل کرنے والا کوئی بات نقل کرتا ہے زید کے نزدیک وہ معتبر ہے عز و کاظم کے نزدیک وہ کاذب ہے زید کے نزدیک وہ سمجھدار ہے عز و کے نزدیک وہ بے دقوف ہے اسی طرح سے اور بہت سے اسباب ہیں تو زید کے نزدیک اس کی روایت سچی پکی اور علم و کاظم کے ناقابل التفات۔ بغرض ان دجوہ سے انہی حدیث و فقرے کے درمیان میں بہت بھی جزئیات میں اختلاف ہوا۔ حن کو اجمالی طور سے ہم مختصرًا بیان کر کے یہ دھخلانا چاہیے۔

کہ یہ وجہ ہیں علماء کے درمیان میں اختلاف کی اور ان کا حل و صور توں منحصر ہے یا بعد کا آنے والا اس قدر صلاحیت رکھتا ہو کہ ان کے وجہ مختلفہ میں سے اپنے دل سے ترجیح دیتا ہے اور اس پر عمل کرے دہ مصیب ہے اور انشاد اللہ جو اسی کو ہم لوگ مجتہد کہتے ہیں یادہ اس قدر استعداد اپنے اندر نہیں رکھ سکا کہ ان متعارض وجہ متعارض اقوال و روايات کے درمیان میں ترجیح دے سکے۔ تو اس کو چاہئے کہ کسی داقف کار کے پیچے ہو لے یہ بھی مسئلہ ہے کہ راستہ جب مشتبہ ہو جائے تو اگر ماہر ہے تو خداگے بڑھے ناداقف ترکی کے پیچے چلے لیکن یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ جس کے پیچے جا رہا ہے وہ خود بھی داقف ہے یا نہیں اور کہاں جامے گا اور یہ صورت کہ ہر چور ابھی پر کسی ایک چلنے والے کے پیچے ہونے والا بجز بھٹکنے کے اور کیا کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء تقلید شخصی کو ضروری بتلاتے ہیں اور تقلید غیر معین سے روکتے ہیں العرض ان سابقہ وجہ کی بنابر علماء میں دوستقل باب مختلف ہو گئے۔ اول وجہ طعن کہ روايات حدیث کو کون وجہ سے مجرد حکم قرار دیا جاسکتا ہے۔ محمد نبی نے وجہ طعن دس گتوانی ہیں جن میں سے پانچ ناوی کی عدالت کے متعلق ہیں اور پانچ حافظہ کے متعلق ————— عدالت کے متعلق حسب ذیل جردوں ہیں۔ رادی کا کاذب ہونا یا مستہم بالکذب فاسق ہونا عامم ہے کہ نعلا ہو یہ مثلاً زنا کار وغیرہ یا قولًا ہو جیسے غیبت کرنے والا بدعتی ہونا۔ مجہول الحال ہونا اور حافظہ کے متعلق پانچ جردوں حسب ذیل ہیں۔ اکثر سلطنت روايات نقل کر دینا روايات کی نقل میں خلفت کرنا۔ کسی قسم کا دہم کر دینا اور معتبر رادیوں کی مخالفت کر دینا۔ حافظہ میں کسی قسم کی خرابی کا ہو جانا۔ اب یہ دس وجہ علماء کے درمیان میں دو وجہ سے مختلف ہو گئیں ادلائی کہ ان وجہوں میں کسی حد تک روايات ضعیف قرار دی جاتی ہے مثلاً بدعتی ہونا آیا مطلقاً جو صفت ہے یا جب کہ اپنی بدعت کے موافق روايت کرنے والا ہو اس وقت جرح ہوتی ہے دغیرہ دغیرہ درجے یہ

کہ بس راوی کے متعلق ان دس عیوب میں سے کوئی عیوب ثابت کیا جاتا ہے وہ عیوب اس میں ہے بھی یا نہیں۔ مثلاً متهہم بالکذب ہونا ایک شخص کے نزدیک دہ متهہم بالکذب ہے دوسرے کے نزدیک نقل کرنے والوں کی غلطی ہے دوچا آدمی ہے۔ اسی طرح اور دجوہ میں بھی علماء حدیث و فقہ کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ اور اس کے بعد ان دس کے علاوہ اور بھی وجہ ضعف علماء کے درمیان میں خلاف ہوئیں۔ مثلاً کسی راوی کا سند کے درمیان میں سے ساقط کر دینا کہ ایک جماعت کے نزدیک یہ مطلق موجب ضعف ہے اور یہ روایت ضعیف بن گئی۔ لیکن دوسرے گروہ کے نزدیک یہ قاعدة کلی نہیں کہ جہاں کہیں راوی مقطط ہو جائے وہ روایت ضعیف بن جاوے بلکہ ان کے نزدیک اس میں تفصیل ہے کہ ساقط ہونے والا کون ہے صحابی ہے یا نصیحے کے درج کا کوئی راوی ہے اسی طرح ساقط کرنے والا خود معتر ہے یا غیر معتر ہے اسی طرح اور بہت سی وجہوں میں جن کے درمیان علماء مختلف ہوئے ہیں کہ ان وجہ سے روایت میں ضعف آتا ہے یا نہیں۔ ایک جماعت کے نزدیک یہ وجہ ضعف کی ہیں اہنہ ان کے نزدیک جبقدر روایات الی ہیں جن میں وجہ منذکورہ بالامیں ہے کوئی بات پالی جاوے گی وہ روایت ضعیف ہے جو انکی اور وہ سلسلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ثابت نہیں ہوگا۔ اور جن کے نزدیک یہ وجہ موجب ضعف نہیں یا ان میں کچھ تفصیل ہے ان کے نزدیک وہ روایات جن میں وجہ بالامیں سے کچھ پایا جاتا ہے وہ ضعیف نہیں اس لئے جو مسائل ان سے معلوم ہوتے ہوں گے وہ ثابت و جست ہوں گے۔ دل چاہتا ہتا کہ اس مضمون کو زیادہ بسط سے لکھا جاتا اور دجوہ منذکورہ بالامیں تفصیل گفتگو کے ساتھ یہ ظاہر کیا جاتا کہ کس درجہ میں کر کیا اخلاق است ہے لیکن علمی بحث ہونے کی وجہ سے موافم کے لئے موجب ملال و طول ہونے کی وجہ سے اس کو مختصر کر دیا مگر در حقیقت یہ علماء مجتہدین میں ٹہری حد تک اختلاف کا سبب ہیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک

بعض دعویٰ ردا ایات ضعف پیدا کرتی ہیں اور دوسرے ائمہ کے نزدیک نہیں۔ اسی وجہ سے علماء اصول فقراء اصول احادیث کی کتابوں کو علم حدیث شریف سے پہلے پڑھانا ضروری خیال فرماتے ہیں کہ جب یہ اصول ذہن نہیں ہو جائے کہ خلاں خلاں وجہ سے ردا ایات متردک ہو جاتی ہیں تو پھر اسکال ذہن میں نہیں رہتا کہ حدیث میں مسئلہ آجائے کے بعد پھر علماء اس کے خلاف کہوں کرتے ہیں، اسی وجہ سے میرا عرصے دل چاہلہ بے کہ حدیث کے تراجم پڑھنے پڑھا وائے حضراتِ احادیث کی کتاب سے قبل کسی اصول حدیث کی کتاب کا خلاصہ و اجمالی بھی کاش پہلے پڑھا دیا کریں کہ عوام بجا رے جو حضور کا کلام ہونے کے شوق میں ان تراجم کو پڑھتے ہیں وہ ان کو پڑھ کر گراہ نہ ہوں اور نہ مسائل فقہی یعنی طبیعت میں تنفس پیدا ہونہ احادیث کی طرف سے بدگمانی خیال میں آجادے۔ دونوں امر لفظان دین کا سبب ہیں و اللہ یهدی من لیشوا لی صراط مستقیمہ اور اس سبب کے بعد اور بھی ایسی دعویٰ میں جن سے روایت بمردح ہوتی ہے تاوق تکیہ ان کا علم نہ ہو اس وقت تک بھی روایت حدیث پر عمل جائز نہیں۔ صاحب تذکرہ لکھتے ہیں:

احادیث میں جو ایک نہایت ہی دشوار اور نازک امر ہے وہ یہ کہ جعل سازوں اور واغطوں نے چونکہ بہت سی احادیث اپنی طرف سے افتر اکر لیں اور ان کے علاوہ بہت معیر اور دیانت دار راویوں سے بھی مخفی حدیث کے سمجھنے میں علطی سوئی اس لئے ائمہ مجتہدین کو احادیث کی جانب کے لئے ایک ایک معیار قائم کرنا ضروری ہوا اور جو معیار داصول انہوں نے اس کے لئے قائم کئے وہ ان اصول کے علاوہ تھے جو عام محدثین نے حدیث کی جانب کے لئے بنائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حدیث کے لیے ان اصول عالمہ کے جو محدثین کے قوام دکے موافق احادیث کی جانب کے لئے بنائے تھے۔

مقرر ہیں۔ نقہ رضی اللہ عنہم نے احادیث کی جباۓ
 اور ترجیح و تیقین کے لئے اصول تبلائے ہیں۔ جس کو اصول فقہ میں باب السنۃ
 سے تعبیر کیا جاتا ہے ہم مثال کے طور پر اجمالی بیان بعض اصول حنفیہ کا کرتے
 ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ حدیث پر عمل کے لئے کن امور کے معلوم ہونے کی
 ضرورت ہے اور احادیث پر عمل کے معنی کس قدر اس سے بے خبر ہیں۔ اہل
 اصول نے تصریح کی ہے کہ ان ضروریات کے ملا وہ جن کا علم کلام اللہ کے لئے
 ضروری ہے، مثلاً یہ معلوم کرنا کہ یہ حکم خاص ہے یا عام یہ لفظ ایک معنی پر دلالت
 کرتا ہے یا اس کے چند معنی ہیں یہ لفظ اپنے ظاہر پر ہے یا اس کے کچھ معنی غیر
 ظاہر مراد ہیں یہ امر دوجوب کے لئے ہے یا استجواب کے لئے وعید کے لئے ہے یا
 اجازت کے لئے غرض ان سب قواعد سے واقفیت تو ضروری ہے ہی جو کلام اللہ
 شریف اور احادیث کے معنی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان احکام کے بھی جانش
 کی ضرورت ہے جن کا تعلق صرف حدیث شریف سے ہے۔ اور یہ احکام چار
 مباحث میں منقسم ہیں۔ اول یہ کہ حدیث شریف کا ہم سے لے کر بنی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم تک پہنچنے کا طریق معلوم ہوتا ضروری ہے کہ احادیث کے طریق مختلف
 ہوتے ہیں بعض احادیث متواتر ہوتی ہیں بعض مشہور یا آحاد جن کا اختصار بیان
 ہم اور کرچکے ہیں۔ بالجملہ حنفیہ کے اصول میں اصال کے لحاظ سے حدیث کی
 تین قسمیں ہیں، متواتر مشہور خیر و احمد متواتر دہ ہے جس کا بیان اور پہنچ کا۔
 مشہور دہ ہے جو طبقہ اولیٰ الحنفی صحابہ کے زمانہ میں ایک دور و ایست کرنے والوں
 سے چلی ہو اور اس کے بعد نیچے کے طبقہ میں اگر اس کے ردایت کرنے والے
 متواتر کے درجہ تک پہنچ گئے ہوں تیری خیر و احمد دہ ہے جو اخیر تک متواتر
 کے درجہ کو نہیں پہنچی ہو۔ اس تیری قسم کی احادیث میں علاوہ کے درمیان تخلاف

ہے کہ یہ مطلقاً عمل کو واجب کرتی ہے یا نہیں۔ خفیہ کے نزدیک اس میں تفضیل ہے کہ بعض صورتوں میں مطلقاً واجب کرتی ہے بعض میں نہیں۔ علماء مالکیۃ سے نقل کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک خلاف قیاس اگر ہوتا موجب عمل نہیں لیکن خفیہ کے نزدیک اگر اس کارادی فقیہ ہو یات کی آئندہ سنتیہ والا ہو جیسے خلفاً راشدین عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْوَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ثابت معاذ بن جبل عَلَى عَائِشَةَ صَدِيقَةَ وَغَيْرِهِ تَوْرَهُ مطلقاً موجب عمل ہو گی خواہ قیاس کے مخالف ہو یا موافق۔ اور اس کے رادی فقایہ میں مشہور نہیں تو ان کی روایت خلاف درایت معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ نقل کیا کہ ہر آگ کی کپی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبد اللہ بن عباسؓ نے یہ کہہ کر کہ ہم گرم پانی سے وضو کرتے ہیں کیا اس سے پھر اعادہ وضو کا کریں۔ اس حدیث کو قابل صحیت قرار نہیں دیا۔ اور اگر اس کارادی اس نوع کا ہو کہ ر ذات حدیث میں معروف نہ ہو تو اگر اس سے روایت کرنے والے معتبر ہوں بلا نکیر روایت کرتے ہوں تو وہ شخص معروف ہی بجھا جاوے گا لیکن ہر رادی کے لئے چار شرطیں لازمی ہیں۔ مسلمان ہونا، صاحب عقل ہونا، حافظہ کا صصح ہوتا اور فاسق نہ ہوتا پھر ان چاروں کے لئے تفصیلات ہیں جو اپنے موقعہ پر وضاحت سے مذکور ہیں کہ کس درجہ کا حافظہ وغیرہ ضروری ہے، مثلاً فاسق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبڑہ کا ارکن کاب نہ کرتا ہو اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ ہو۔ اسی طرح ضبط کے متعلق بھی شرط ہے کہ سننے کے وقت پوری توجہ سے ایسا ہی سنا ہو جیا کہ حق ہے اور اس کے بعد دوسرے کو پہنچانے تک اس کو یاد بھی رکھا ہو اور سننے کے وقت اس کو معنی کے لحاظ سے سمجھا بھی ہو۔

اس کے بعد دوسری سمجحت اس حدیث کے اتصال و القطاع کے باہم

ہے۔ اقطاع کی اہل اصول نے دو قسمیں فرمائی ہیں۔ ایک اقطاع طاہری کو سند کے درمیان سے کوئی واسطہ بھوٹ گیا ہو عام ہے اس بات سے کہ وہ واسطہ صحابی کا بھوٹا ہو یا غیر صحابی کا ائمہ کے درمیان میں اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ کس صورت میں یہ حدیث قابل استدلال ہوگی اور کس صورت میں نہیں دوسرا اقطاع باطنی ہے حقیقت میں اس کو اقطاع سے تعبیر کرنا یہ باریک مبینی کی وجہ سے اور حدیث ثبوی کے ساتھ غایت درجہ احترام ہے ورنہ ظاہری نقطہ نظر میں یہ اقطاع نہیں اس وجہ سے دیگر ائمہ فقہہ داصلوں اس نوع کو اقطاع سے تعبیر نہیں کرتے بالجملہ یہ مختلف وجوہ سے ہوتا ہے۔ اول یہ کہ مخالفت کتاب اللہ اس کی مثال اہل اصول کا صلوٰۃ الـ بتاخـة الـ کتاب کہ کوئی خانز بغیر فاتحہ کے جائز نہیں بتلاتے ہیں۔ کہ یہ ضمنون چونکہ کلام اللہ شریف کی آیت خاقان و ماتیس من القرآن کے عموم کے خلاف ہے اس لئے اہل اصول کے نزدیک اس میں کسی قسم کا اقطاع باطنی پیش آیا۔ دوسرا یہ کہ کمی مشہور حدیث کے خلاف ہو جیسے کہ حدیث القضاۓ بشاهد و یعنی ایک گواہ کی صورت میں دوسرے گواہ کے بالوعض قسم لے لی جادے اور ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ کر دیا جائے اور یہ حدیث مشہور البینہ علی المدعی والیمعین علی ما انکر کے خلاف ہے اس لئے صحبت نہیں اسی طرح کسی حادثہ مشہورہ میں جو کثیر الوقوع ہو اس میں ایک آدھ راوی کا کسی امر کو ذکر کرنا اور رقبیہ کو ذکر نہ کرنا بھی اس کی دلیل ہے کہ اس میں کسی قسم کی گردابی پیش آئی۔ اسی طرح صحابہ کے زمانہ میں کسی مسئلہ کے متعلق صحابہ کا رد و قدرح کے بعد اپنے اجتہاد سے حکم فرمانا اور اس حدیث سے استدلال نہ فرمانا بھی جردوح میں سے ہے اسی طرح کسی راوی کا اپنی مردی حدیث سے انکار کر دینا یا اس حدیث کے خلاف عمل کرنا یا فتویٰ دینا بھی روایت کی جردوح میں سے ہے اس بحث کو زیادہ

طوبیل کرنا نہیں چاہتا اہل اصول نے نہایت مفصل وضاحت سے ان امور کو
دلل بیان فرمایا ہے جس کا دل چاہے ان کی تالیفات میں دیکھئے میرا مقصد یہ ہے
کہ جلد ائمہ کے نزدیک خواہ وہ قبلہ فہار سے ہوں یا قبلہ محدثین سے انتزاع
حدیث کے لئے کچھ اصول اور قواعد میں جن سے حدیث کا معیار اس کا درجہ
اس کا واجب العمل ہوتا پر کھا جاتا ہے اور انہی قواعد کے اختلاف کی وجہ سے
ائمه کے درمیان میں بہت سی ردایات کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ بعض ائمہ
ایک حدیث پر عمل ضروری خیال فرماتے ہیں اس لئے کہ ان کی تنقید میں وہ حدیث
معیار کے موافق اتری ہے دوسرے بعض ائمہ اس کو قابل ترک فرماتے ہیں اس
لئے کہ ان کے تبصرہ میں حدیث صحیح داعیت کے درجہ کو کسی درجہ سے نہیں پہنچی ان
دو نزد میں فیصلہ دشخپس کر سکتا ہے جو دونوں کے اصول استفادے کماحتہ
واقف ہوا ورجو دو نزد سے بے بہر ہوا و کہ خود گم است کراہ رہبری کند۔ مجھے
حقیقتہ ان غیر مقلدین سے ہمیشہ تعجب رہا جو اتف ہو کر عوام کو اس عنوان سے
بہکاتے ہیں کہ مقلدین ائمہ کے مقابلہ میں حدیث کی پردا نہیں کرتے عوام غیر مقلدین
ان سے خود ناواقف ہیں ان کی شکایت نہیں اہل علم کی شکایت ضرور ہے کہ وہ
ان امور سے واقف ہو کر کھانا کرتے ہیں اور واقعی بات پر پردہ ڈال کر خلقت
کو دھوکا دیتے ہیں ائمہ کی شان بہت اعلیٰ ہے یہ امر تو عام مسلم سے بھی کبھی گولا
نہیں ہو سکتا کہ حدیث کے ساتھ نبی اکرمؐ کے ارشاد کے مقابلہ میں کسی بٹے نے
بڑے کا قول بھی لئنے کے لئے تیار ہو جاوے لیکن یہ لئنی امر ہے کہ احادیث کا
جمع ان کی ترجیح ان کی تطبیع ان امور میں ہم صرف علماء کے مقابلہ ائمہ کا قول ان کی
حقیقت ان کی ترجیح مقدم اور ضروری ہے جس سے انکار ظلم اور تعدی ہے بالجملہ
ائمه کے درمیان میں اختلاف بڑی وجہ ردایات کے درمیان میں ترجیح ہے کہ
تم مختلف ردایات میں سے ایک امام کے نزدیک بعض ردایات راجح ہیں اور دوسرے

کے نزدیک دوسری روایات راجح ہیں جس ایک فرقہ کے نزدیک ایک نوع کی روایات راجح ہوتی ہیں اس کے نزدیک دوسری روایات جو اس حکم کے مخالف ہیں مجرّح ہیں غیر ثابت ہیں، موقوف ہیں جن لوگوں نے ایسی کتب کا مطالعہ کیا ہے جو اختلاف الہم کے بارہ میں لکھی گئی ہیں جیسے میزان شعرانی، کتاب المغنى بدایۃ المجتہد کشف الغمہ وہ اس حقیقت سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ الہم کے مدارک اقوال کے مأخذ سب مشکوٰۃ نبوت سے ماخوذ میں صرف علتہ واستخراج سائل کافری ہوتا ہے مثال کے لئے ہم بدایۃ المجتہد کی ایک فصل کے کچھ حصہ کی تلمیص ذکر کرتے ہیں جس سے اس امر کی توضیح ہو گی کہ حقیقتاً مأخذ انہ کے اقوال کے آیات و احادیث ہی ہیں البتہ طریق استنباط مختلف ہوتا ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ نوافض و صنور میں اصل باری تعالیٰ کا قول ہے ادجاع احمد بن مکنم من القائط او ملستم النساء ادریبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لا یقبل اللہ صلوٰۃ من احدث حتیٰ تیوضاء۔ اس باب میں الہم کا اس پر اتفاق ہے کہ بول در باز ریح فی وردی سے وضو نوٹ جاتا ہے بوجہ روایات واردہ کے اور اس باب میں سات سائل جو بنزلہ قرآن دلکشی کے ہیں مختلف ہیں۔

اول ان اشیاء میں اختلاف ہے جو سبیلین کے علاوہ بدن انسانی سے کوئی نجس خارج ہو اور علامہ کے اس میں تین اقوال ہیں جن لوگوں نے آیت بالا میں خرد و نجس کو علتہ لفظ قرار دیا ان کے نزدیک بدن کے جس حصہ سے بھی خرد و نجس ہو گا وہ ناقص و صنو ہو گا اس لئے علت لفظ پانی گئی اور یہ لوگ امام ابوحنیفہ اور ان کی جماعت اور امام ثوری امام احمد بن حنبل ہیں اور ان سے قبل صحابہ کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے ان کے بیان کے شاہد ہیں ان حضرات کے نزدیک ہر نجس کا خرد و خواہ بدن کے کسی حصہ سے ہر ناقص و ضعیف ہے

جیسے خون نکیر فصلتہ غیرہ۔

دوسرا قول دوسرے ائمہ کا ہے انہوں نے آیت بالامیں نقض وضو کی علت خروج من السبیلین قرار دی ان کے نزدیک سبیلین سے جو کچھ بھی نکلے خواہ دم یا کنکرا اور جس طرح بھی نکلے مرض سے یا صحت سے ناقض وضو ہو گا غیر سبیلین کے خارج کا یہ حکم نہیں یہ لوگ امام شافعی صاحب اور ان کی جماعت ہیں۔

تمیری وہ جماعت ہے جنہوں نے خارج اور محل خروج دونوں کا اعتبار کیا وہ فرماتے ہیں سبیلین میں سے جو معتاد چیز خارج ہو جیسے پیشاب مذکورہ اس سے وضو لٹھ جاتا ہے اور جو غیر معتاد خارج ہو جیسے کیڑا خون دغیرہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس قول کے قائل امام مالک اور ان کے ہمزاہیں اب اسی ایک آیت سے ائمہ ارجمند نے استدلال استنباط فرمایا لیکن چونکہ علت نقض وضو میں جملہ حضرات کا اختلاف تھا اس لئے حکم میں بھی اختلاف ہوتا رہا اور ان ہی اصول کی بنی پراب آثار و روایات میں بھی اختلاف ہوا امام البر حنفیہ امام احمد بن حنبل امام شافعی صاحبؑ کے نزدیک چونکہ آیت میں اگرچہ خاص ما خروج من السبیلین کا حکم ہے لیکن یہ ایک تمثیل ہے اور حکم عام ہے اس لئے مستحاضہ وغیرہ کی ان روایات میں جن میں مستحاضہ کے لئے وضو کا حکم ہے اس سے ان حضرات نے تائید پکڑی اور امام مالکؓ کے نزدیک چونکہ یہ حکم خاص تھا لہذا مستحاضہ کی ان روایات میں جن میں وضو کا حکم دار درستہ انہوں نے کلام فرمایا اور اس زیارتی وضو کو غیر شرایط غیر معترض قرار دیا۔

اسی طرح دوسرا مسئلہ نزم کا ہے کہ علماء کے اس میں بھی تین مذهب ہیں۔ بعض نے نوم کو مطلقاً ناقض وضو فرمایا اور دوسرے بعض حضرات نے مطلقاً غیر ناقض وضو فرمایا اور تمیری جماعت نے تفصیل فرمائی کہ بعض الواقع نوم کو ناقض وضو قرار دیا اور بعض کو نہیں۔ یکیوں ہو اس لئے کہ باب نزم میں دو طرح کی روایات

دارد ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نوم ناقض نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونؓ کے گھر تشریف لے گئے اور آرام فرمایا جسی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی آواز خراںٹوں کی سنی اور پھر حضور نے اٹھ کر نماز پڑھ لی اور دھونہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں دارد ہوا کہ بعض صحابہؓ مسجد میں بیٹھے ہوتے نماز کے اشطار میں اذنگھنے لگتے تھے اور پھر نماز پڑھ لیتے تھے لیکن دوسری روایات اس کے خلاف ہیں مثلاً صفوان بن عال نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پیش اپ پاخاتہ یا نزم کی وجہ سے موزہ آثار نے کی ضرورت نہیں مسح کافی ہے القبر جا بست کی حالت میں مسح کافی نہیں ایسے ہی ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ دھواں پر جب جو لیٹ کر سوچنے دغیرہ دغیرہ علماء نے ان دونوں قسموں کی روایات میں دو طریق اختیار فرمائے۔ بعض حضرات نے ترجیح کو اختیار کیا اور اس میں پھر دو طریق ہو گئے کہ ایک گردہ نے ادل نزع کی احادیث کو راجح سمجھا اور اس کی وجہ ترجیح ان کو نیادہ ملی انہوں نے دوسری قسم کی روایات کو مرجوح قرار دیا اور دوسروں نے اس کا عکس کہا اور تیسرے طریق نے دونوں کو راجح سمجھا کسی ایک کی خاص طور سے ترجیح کی وجہ ان کو نہ ملیں۔ انہوں نے دونوں کے درمیان جمع فرمایا اور نوم کی اقسام میں تفریق فرمائی کہ ایک قسم نوم کو ناقض وضو قرار دیا اور دوسری قسم کو ناقض نہیں سمجھا۔

اسی طرح تیسرا مسئلہ حورت کو چھونے سے دھنوٹوٹنے کا ہے ایک جماعت کا مذہب ہے کہ اگر حورت کو نا تھوڑے بلا کسی حائل کے چھوڑے تو دھنوٹوٹ جاتا ہے، دوسری جماعت کی تینیج ہے کہ یہ حکم مطلقاً نہیں بلکہ اس کے ساتھ لذت کی بھی قید ہے، اک اگر لذت سے نا تھوڑا گاتے گا تو دھنوٹوٹ جاوے گا درجنہ نہیں، تیسرا جماعت کی تحقیق ہے کہ نا تھوڑے چھونے سے دھنوٹوٹنا بھی نہیں سمجھا۔

رضی اللہ عنہم کی جماعت میں بھی یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا اور اسی وجہ سے صحابہ نے تباہیں کی جماعت میں بھی تینوں مذاہب کے قائل ملتے ہیں، ائمہ میں پہلاً قول امام شافعی کا ہے دوسرا طریقہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا مختار ہے اور تمیر امسک امام عظیم ابو حنفیہ رضی اللہ عنہ کا ان حضرات کے اختلاف کا مبنی لفظ میں کامشترک المعنی ہونا ہے کلام الشریف میں اول المستم الفساع وارد ہوا ہے، اور کلام عرب میں مس کا اطلاق دو معنی پر آتا ہے صحت اور جماعت کرنے میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور ہاتھ سے چھوٹے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس بنا پر ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ایک جماعت کے نزدیک اس سے جماعت کرنا مراد ہے اس لئے ان کے نزدیک یہ آیت وضو توڑنے والی جنزوں کو شامل ہی نہیں۔ یہ امام عظیم کا مسلک ہے، دوسرے حضرات کے نزدیک وضو توڑنے کا بیان ہے اور مس سے مراد چھوٹا ہے ان کے نزدیک آیت سے وضو توڑنے کا حکم معلوم ہوا، لیکن ان حضرات میں پھر یہ اختلاف ہوا کہ حکم عام ہے یا کسی قید کے ساتھ مقید ہے حضرات شافعیہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک مطلق ہے کسی قید کے ساتھ مقید نہیں اس لئے ان کے نزدیک اس سے مطلقاً وضو توڑ جاتا ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ مقید ہے ایک اور قید کے ساتھ وہ یہ کہ لذت سے چھوڑو ان سب حضرات کے نزدیک اس امر کے لئے آثار و قرائیں بھی موجود ہیں اور ان آثار و قرائیں ہی کی بنیاد پر وہ حضرات اس آیت کے معنی متعین فرماتے ہیں مثلاً امام مالک اور امام عظیم رضی اللہ عنہما کے نزدیک مختلہ اور بہت سے قرائیں کے ایک قرینة یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعدد طرق سے یہ بات ثابت ہے کہ بسا اوقات حسنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نماز یا غیر نماز کی حالت میں حضرت عائشہؓ کو لوگ جاتا تھا اور حسنورا وضو نہیں فرماتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ اندر ہیرے میں نماز تہجد ادا فرماتے تھے کہ جماع دغدغہ کا

اس زمانہ میں دستور نہ تھا مسجد کو جاتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیوی و پری
ہی سوری تھیں ان کا پاؤں سامنے اگیا تو حضور نے نماز ہی کی حالت میں اس کو ہٹا
دیا اس سے معلوم ہوا کہ صرف چھونے سے دھون نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہر طرح کے
چھونے سے نہیں ٹوٹتا یا کسی خاص چھونے سے مالکیہ کے نزدیک بلا شہوت سے
نہیں ٹوٹتا اور حنفیہ کے نزدیک عام ہے کہ طرح کے چھونے سے نہیں ٹوٹتا
کیوں! اس لئے کہ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہؓ نے اعلیٰ فرماتی ہیں کہ
حضور بعض مرتبہ کسی بیوی کو پیار کرتے اس کے بعد بلاد ضوف فملے نماز ادا فرماتے۔
یہ چھوڑنا لا محال شہوت اور محل شہوت کا ہے اس لئے بیوی کو پیاو بالعموم بلا
شہوت نہیں سوتا دغیرہ دغیرہ۔ غرض اس طرح سے ائمہ کے درمیان میں اختلاف
ہوتا ہے وہ حقیقتہً اس اختلاف آثار دروایات پر متفرع ہوتا ہے جس کو میں
سابقہ مفسون میں مفصل تعلیل کرچکا ہوں اور اس کے ساتھ اختلاف دو ہو تو نیز
اور وجود صحف روایات مزید برآں ہیں۔

الحاصل ائمہ کے درمیان میں اختلاف کی ٹری و جو روایات حدیث کے نقد
و تبصرہ پر متفرع ہے کہ مختلف اسباب صحف کی بنا پر ایک روایت کسی امام کی
تحقیق میں سچی ثابت ہوئی اس کے نزدیک وہ واجب العقل اس سے جو حکم ثابت
ہوتا ہو وہ واجب العقل دوسرے امام کے نزدیک وہ روایت معیار صداقت میں
درجہ کمال کو نہیں پہنچی اس وجہ سے اس کے نزدیک اس سے حکم شرعی کا ثبوت
دشوار۔ اور حقیقتہً یہ اختلاف اپنے محل پر ہے بد اہم عقل اس کی نقدیق کرنے ہے
اس لئے کہ جب روایات حدیث کی صحت و سقم کا مدار روایات کے احوال پہنچے اور
روات کے احوال میں اختلاف تحقیقی تھی تو روایات حدیث پر محل میں اختلاف بھی
یقینی اس کی مثال اس بیمار کی سی ہے جو چند طبیبوں کے درمیان ہو کہ ایک حکیم
کے نزدیک اس کا مرض نہایت خطرناک ددرسے کے نزدیک معمولی اور تیسرے

کے نزدیک بیمار کا دھم ہی اس کی بیماری کا سبب ہے در نہ دہ تند رستہ ہے اسی طرح ایک رادی بجھن اپنے نظر کے نزدیک ایک غیر معتبر اور مطعون ہے دوسرے کے نزدیک ایماندار سچا پکا تو الی حالت میں نہ ان اطباء پر حملہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ائمہ جرج و تعدادیں پر بلکہ بیمار کے تہار داروں سے یا احادیث و شریعت کے پیروں سے یہی کہا جاوے گا کہ تمہاری نگاہ میں جس شخص کی تحقیق پر اعتماد ہو اس کے ساتھ ہو تو حق سبحانہ مدد فرمادیں نہ یہ کہ معجون مرکب بنانے کے سب کا استعمال شرمند کر دیا جاوے ائمہ حدیث نے تصریح کی ہے کہ تابقدین حدیث کی مثال صراف کی سی ہے کہ سونے کو دیکھ کر فوراً تماز جاتا ہے کہ کھرا ہے یا کھوٹا حافظ ابن حجر شرح نجفہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

کہ علوم حدیث کی انداز میں سب سے زیادہ دقیق بحث معلل کی ہے اس کا ماہر وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو حق تعالیٰ شانہ روشن فہم اور دیسیع حافظہ عطا فرمادیں نیز رواۃ کے درجہ اور رتبہ کی معرفت اور لکھ کر قویہ اس نیڈا اور مستون میں پیدا ہو گیا ہو اسی وجہ سے ائمہ حدیث میں سے بہت ہی قلیل جماعت نے اس میں لب کشائی فرمائی ہے، جیسے علی بن المدینی امام احمد بن حنبل بخاری و راقطینی وغیرہ میں اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حدیث میں علت بیان کرنے والے کی عبارت یا اوقات اس سے قاصر ہوتی ہے کہ وہ اس پر حجتہ و دلیل قائم کر سکے جیسے کہ صراف و راہم دنا نیکر کو پر کھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سیوطی تدریس میں لکھتے ہیں کہ انداز حدیث میں سے اٹھار دیں قسم معلل ہے یہ نوع حملہ انداز میں جلبیل و دقیق ہے۔ اور اشرف انداز میں شمار ہوتی ہے وہی لوگ اس پر قابو پا سکتے ہیں جن کا حافظہ اور جانچ کامل ہو۔ حاکم کہتے ہیں کہ حدیث بسا اوقات معلل ہو جاتی ہے اور ظاہراً کوئی جرج اس میں معلوم نہیں ہوتی اور رجحت تعلیل میں ہم لوگوں کے نزدیک حافظہ فہم اور حدیث کی معرفت ہے اور کچھ نہیں۔

ابن مہدی کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث کی علت معلوم ہو جادے وہ اس سے بہتر ہے کہ دس احادیث جدید حاصل کر دوں علامہ نووی کہتے کہ علت حدیث اس باریک عیب کو کہتے ہیں جو مخفی ہو ظاہر حدیث میں کوئی جرح نہیں ہوتی مگر حقیقتاً اس میں کوئی باطنی جرح ہوتی ہے جو کبھی تفرد راوی سے معلوم ہو جاتی ہے اور کہیں ردۃ کی مخالفت سے اور اس کے ساتھ کچھ اور قرآن مضمون ہو جاتے ہیں جس کو اہل فتن معلوم کر سکتے ہیں۔ ابن مہدی سے کسی نے پوچھا کہ تم بعض احادیث کو معامل کہہ دیتے ہو بعض کو صحیح یہ کس طرح معلوم کرتے ہو انہوں نے فرمایا کہ اگر صراف کے پاس تم کچھ دراہم لے کر جاؤ اور وہ بعض کو کھوٹا بتلا دے اور بعض کو عمدہ تو اس سے بھی پوچھتے ہو کس دلیل سے پہچانا۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث کے ساتھ کثرت ممارست اور برقوت کی وجہان بین سے یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے ابو زرع سے کسی نے پوچھا کہ تم بعض احادیث کو کھوٹا بتلا دیتے ہو اس پر کیا دلیل ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کسی حدیث کو پوچھو اور جب میں کھوٹا بتلا دوں تو ابن دارہ سے پوچھو اور پھر ابو حاتم سے پوچھو اگر سب ایک ہی بات کہیں تو حقیقت سمجھ لوگے چنانچہ انہوں نے اس کا تجربہ کیا تو ایسے ہی ملا۔ مجھے ان اقوال کا احاطہ مقصود نہیں۔ علم حدیث کے ممارستہ رکھنے والے اس کو خوب جانتے ہیں، میرا مقصود اس امر کو واضح کرنا تھا کہ ائمہ کا اختلاف اول روایات دائر کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے جو بالآخر مباحثت میں گذر جائے اور اس کے ساتھ ان کی تصحیح و تصنیف میں اختلاف جو بدیہی اور فطری ہے۔ مزید براں اس زمانہ میں چونکہ علم سے شناسائی جاتی رہی اس وجہ سے عوام کو پھوڑ کر بہت سے ناقص العلم دعی فضل و کمال اس دھوکہ میں مبتلا ہیں کہ ائمہ کے اجتہادات آپس میں مخالف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ائمہ اپنی طرف سے بلا ولیل اور بلا کسی مأخذ کے اجتہاد کر لیتے ہیں بلکہ

غالب حصہ مشکوٰۃ بنوت ہی سے مستنبط ہوتا ہے اور وجہ استنباط مختلف ہوتے ہیں، بالجملہ انہ کے درمیان میں اختلاف کی ٹبری وجہ ان روایات کا درجہ بھی جن میں احکام وارد ہوئے ایک امام کے نزدیک ایک روایت جو کسی حکم کو شامل ہے وہ صحیح ہے معتبر ہے دوسرے امام کے نزدیک دوسری روایت جس میں اس کے خلاف حکم ہے وہ صحیح اور معتبر ہے اور جیکہ ائمہ فقہ خود بنزولہ طبیب اور صراحت کے ہیں روایات پر قبول اور روکا حکم لگانا ان کا کام ہے اس پر یہ جرح یا اشکال کرنا کہ فلاں امام نے اس روایت کو کیوں معتبر نہیں سمجھا حماقت اور جھیالت ہے اس لئے آج تیرہ سوریں بعد نہ یہ حقیقی متعین کہ انہ کے پاس روایات ان اسانید سے پہنچیں جو بخاری سامنے ہیں اور نہ یہ کہ انہ کے نزدیک یہی وجہ جرح ہیں جو بخاری نزدیک ہیں یا بخاری مسلم نے تحریر فرمادی ہیں بالخصوص جب کہ انہ کا درجہ کا درجہ رتبہ زمانہ سب کچھ بخاری مسلم سے سقدم ہے اور جب ان سے مقدم ہے تو بخاری کے بعد والے ابو داؤد ترمذی لشائی ابن ماجہ کا کیا کہتا اور اس کے بعد ان کے بھی پہنچپے آنے والے دارقطنی یہی وغیرہ کاترا انہ کے سامنے ذکر ہی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان سب حضرات کو بھی باوجود اپنی جلالت شان اور انہ حدیث ہونے کے فقہ میں تعلیمی بغیر چارہ نہیں ملا اور نہ ہو سکتا ہے کہ روایت حدیث کے الفاظ نقل فرمادیتا، اس کے طرق محفوظ فرمالینا امر آخر ہے اور اس سے مسئلہ کا استنباط اور فہمی حدیث سے اس پر عمل امر آخر ہے۔

اس کے بعد دوسرا اختلاف انہ فقہ میں وجہ ترجیح میں ہوا ہے اس کا بیان اگر مجملًا پہلے آچکا ہے مگر چونکہ یہی درحقیقت انہ کے مابین اختلاف کی ٹبری وجہ ہے اس لئے اجمانی گفتگو اس پر مستقل کرنی بھی ضروری ہے انہ کے درمیان میں روایات کو صحیح مان کر وجہ ترجیح میں بھی اختلاف ہے لیکن دو مختلف مصنفوں کے درمیان میں وجہ ترجیح کیا کیا ہو سکتی ہے، یہ بیان بھی بہت طویل ہے اور انہ

اربعہ کی کتب دیکھنے سے اس کی تفصیلی حقیقت واضح ہوتی ہے تمثیل کے طور پر
مختصر عرض کرتا ہوں سفیان بن عینیہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابوحنفیہ اور اوزاعی
کا اجتماع مکہ کے ایک بازار میں ہوا، امام اوزاعی نے امام صاحب سے سوال کیا
کہ تم لوگ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یہیں کیوں
نہیں کرتے۔ امام صاحب نے فرمایا اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
تک اس کا ثبوت صحت کے درجہ میں نہیں پہنچا اوزاعی نے زہری عن سالم عن
ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا افتتح
للصلوة وعن الرکوع و عند الرفع منه يعني زہری عن سالم سے نقل
کرتے ہیں اور وہ ابن عمر سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے
ہوئے اور رکوع کو جلتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یہیں فرماتے
تھے۔ امام صاحب نے اس کے جواب میں حاد عن ابراہیم عن علقمة والا سود عن ابن
مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاں لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة
الحادیث پڑھ کر مستائی یعنی حماد ابراہیم سے اور وہ علقمة اور سود سے اور وہ
دونز عبد الدین مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب
نماز پڑھتے تھے تو رفع یہیں صرف تکیر تحریک کے وقت فرماتے تھے اس پر
اذراعی نے کہا کہ میں زہری عن سالم کی سند بیان کرتا ہوں یعنی جس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک میں ہی واسطے ہیں اور تم چار واسطے والی سند حاد
عن ابراہیم نقل کرتے ہو امام صاحب نے فرمایا کہ حاد زہری سے زیادہ قصیر
ہیں؛ اور ابراہیم سالم سے زیادہ اور علقمة بھی فقاہت میں ابن عمر سے کم نہیں،
اور اگر ابن عمر کو صحابی ہونے کی فضیلت حاصل ہے تو علقمة کو اور بعض فضائل حلال
ہیں، اور عبد الدین مسعود کا تو پوچھنا ہی کیا اس پر اوزاعی کو سکوت کرتا پڑا۔ ابن عونی
ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب ابن عمرؓ اور ابن مسعودؓ میں کسی امر میں تعارض ہو تو

ابن مسعود کو ترجیح ہوگی،

میرا مقصود اس مناظر مکے ذکر کرنے سے ان دونوں حضرات کی وجہ ترجیح کو بتلانا ہے کہ اوزاعی کے نزدیک اور بھی حضرات شافعیہ کا بھی ملک ہے کہ مسلمہ سند کے کم ہونے سے ترجیح روایت کو حاصل ہوتی ہے اور امام صاحب کے نزدیک روایت کرنے والوں کے فقیہ ہونے سے ترجیح ہوتی ہے اور حنفیہ کے نزدیک روایت کرنے والوں سے ابھر و جریب بھی ہے کہ جب روایات کے درمیان تعارض ہوتا ہے تو یہ فقیہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور قرین عقل بھی ہے کہ جس قدر آدمی سمجھو دار ہو گا اسی تدریبات کو علی وجہ الامم تقل کر سکتا ہے لیکن طرح سے حضرت امام مالکؓ کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل کسی روایت کے موافق ہونا اس کی ترجیح کی وجہ ہوتی ہے لیکن جب کہ دور روایتوں میں تعارض ہو تو جس حدیث کے موافق اہل مدینہ کا عمل درآمد ہو گا وہ اس کو راجح قرار دیں گے چنانچہ مؤٹا امام مالک کے دیکھنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے این عزیزی مالکی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں :

کہ امام مالک کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی حدیث اہل مدینہ میں مشہور ہوتی ہے تو وہ سند کی تتفق سے مستغفی ہوتی ہے جن وجہ سے روایات کے درمیان میں ترجیح ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ حازمی نے کتاب الناسخ والمنسوخ میں پچاڑ وجوہ ترجیح تبلائیں ہیں جن کی بن پر دور روایتوں میں سے کسی ایک کو دریٹ پر ترجیح ہوتی ہے اور عراقی نے کتاب النکت میں سوچ سے زیادہ تبلائی ہیں یہ سب وجہ انہ کے درمیان میں متفق علیہ نہیں عمل بالحدیث کرنے والے کا بڑا فرض ہے کہ ان سب کی تحقیق کرنے کے بعد یہ دیکھئے کہ کون سی روایت میں وجہ ترجیح زیادہ پائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کو درسری متعدد روایات پر ترجیح دے کے اسی وجہ سے حنفیہ ان روایات کو بھی ترجیح دیتے ہیں جو قوۃ سند یا ملسوں سند کے مخاطب سے

زیادہ راجح نہیں ہوتیں کیوں؟ اس لئے کہ انہیں اس سے زیادہ توی وجہ ترجیح پائی جاتی ہیں۔ مثلاً حفیہ کے نزدیک کسی مضمون حدیث کا ادغق بالفاظ القرآن ہونا توی تردید جو ترجیح میں سے ہے اور یہ امر نہایت بدیری ہے اس لئے کہ الفاظ حدیث کابینی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سوتانقی نہیں روایات کا بالمعنى حدیث فتن کرنا پہنچے بیان کیا جا چکا اور الفاظ قرآن کا بلطفہ منقول ہوتا قطعی ہے اس لئے مختلف روایات کے مضمون میں جو مذاہیں الفاظ قرآنی سے زیادہ قریب معلوم ہونگے اس کا راجح ہوتا یقینی اور بدیری امر ہے۔ اسی وجہ سے حفیہ رفع یہ دین کی روایات کے درمیان میں ان روایات کو راجح قرار دیتے ہیں جو عدم رفع پر دلالت کرتی ہیں؛ اس لئے کہ کلام مجید میں وَ قُوْمُوا لِلَّهِ قَاتِلُّنَّ دارِ دُبُو اہے اور اس کے معنی راجح قول کے موافق ساکنین کے ہیں اس بنا پر جتنی مختلف روایات الی ہوں گی جن میں سے ایک سکون کے قریب ہو وہ حفیہ کے نزدیک راجح ہو گی اور واقعات سے اس کی شہادت اور تائید ملتی ہے کہ بالاتفاق ناز میں اول اول بہت سے اعمال مثلاً بدن بات کرنا دغیرہ دغیرہ جائز تھے پھر فتح رفتہ سکون کی طرف انتقال ہوا اس لئے ہر دوہ متعارض روایات میں سے جو بھی روایت سکون کے قریب ہو گی۔ حفیہ کے نزدیک وہ راجح ہو گی اسی وجہ سے حفیہ کے نزدیک قرارۂ خلف الامام کی متعارض روایات میں وہ روایات راجح ہیں جو عدم قرارۂ خلف الامام کی متعارض روایات میں وہ روایات راجح قری القرآن فاسمعوا اللہ و انصتوا کے اقرب ہیں اسی وجہ سے احنف کے نزدیک صحیح کی نماز اور عصر کی نماز میں تاخیر اولیٰ اور افضل ہے اس لئے کہ وہ آیت قبل طلوع الشمس و قبل غروب بھا کے زیادہ قریب ہے اس لئے کہ آفتاب کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل اسی وقت بولا جاتا ہے جب کہ اس کے قریب ہو، اس لئے کہ غروب سے تین چار گھنٹہ قبل

کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس سے قبل پہنچ جاؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خفیہ نے وتر کے قنوت میں اللہ تعالیٰ نا فستعینے کے امّ اس دعا کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ قرآن شریعت کی دوسرا تین بتائی جاتی ہیں اس کی نہایت مثالیں موجود ہیں جن کو تطویل کے خوف سے ترک کیا جاتا ہے، مگر عمل بالحدیث کے لئے وجوہ ضعف روایات اور وجوہ ترجیح کا معلوم کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ بد و ن اس کے عمل بالروایات ممکن ہی نہیں۔ میں نے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں اصول ائمہ کی تلفیض اور وجوہ ترجیح جمع کرنے شروع کئے تھے۔ مگر وقت نے اس کی سکمیل کی مساعدۃ نہ کی۔

وَاللَّهِ الْمُوْفَّقُ -

حضرت شیخ ارشاد فراز تے ہیں

یعنی مضمون کچھ اس سے زائد بھی لکھا گیا تھا مگر اس دفت مسودہ اتنے ہی کامل اس کے بعد اس باب کی نامساعدت سے رسالہ "المظاہر" ہی بینڈ ہو گیا۔ احباب کا بہت ہی شدید اصرار اس کی تکمیل کارنا، اور میری بھی خواہش رہی اس لئے کہ جو مضافاً میں اس وقت میرے ذہن میں تھے وہ بہت ہی طویل اور مبہوت تھے۔ میرا اندازہ اس و بت پتار سو۔ پانچ سو صفحات لکھنے کا تھا مگر اس کے بعد مشاغل کے بحث میں اس کی تکمیل کی نوبت نہ آتے دی اور مجھے اس کے ناقص ہونے کی وجہ سے اس کی طباعت کا بھی وام ہے نہیں ہوا، اگرچہ بہت سے احباب نے اصرار کئے مگر میں ہر مرتبہ بھی کہتا رہا کہ وہ تو ابد الی اور ناقص مضمون ہے۔ لیکن میری سفر ۱۲۹۰ھ کے سفر حجاز میں عزیز شاہد سلئہ نے ان پریشان اور اس کو نامعلوم کہاں سے تلاش کر لیا، ابھی اس کے ۱-۲ جز اور لکھنے ہوئے باقی ہیں جو نہیں ملے اس نے اس کی طباعت پر اصرار کیا اور کہا اتنا بھی ضروری اور بہت مفید ہے، اور میرے خلص احباب مفتی محمود صاحب، مولوی یونس صاحب اور مولوی عاقل صاحب، مولوی سلمان صاحب دغیرہ سب ہی نے اس کی طباعت پر زور دیا۔ اس لئے میں نے عزیز موصوف کو اس کی طباعت کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ٹپھنے والو کو بھی قائدہ پہنچائے۔

محمد زکریا